

Glossary of Technical Terms

(English - Urdu)

Philosophy, Psychology & Education

فرہنگ اصطلاحات

(انگریزی - اردو)

فلسفہ، نفسیات اور تعلیم



تحریک اردو بیور و تی ملی

BUREAU FOR PROMOTION OF URDU

Department of Education

Government of India

Glossary of Technical Terms
(English-Urdu)

Philosophy, Psychology & Education

فرہنگ اصطلاحات
(انگریزی — اردو)
فلسفہ، نفیسیات اور تعلیم

Year of Publication: 1988 Saka 1910 ۱۹۸۸ شک ۱۹۱۰ سنا شاعت

© Bureau for Promotion of Urdu

© ترقی اردو بیورو

First Edition: 3000

پہلا ایڈیشن، ۳۰۰۰

S. No. 585

بلسلہ مطبوعات: ۵۸۵

30/-

قیمت: ۳۰ روپے

Published by the Director, Bureau for Promotion of Urdu, Deptt. of Education.
Ministry of Human Resource Development. (Govt. of India) West Block 8 R. K.
Puram, New Delhi-110 066 and Printed at: Super Printers Delhi-51

ناشر: ڈائریکٹر، ترقی اردو بیورو، حکومتی تعلیم و زیر انتظام انسانی وسائل حکومت ہند۔
ویسٹ بلک—8 آر کے پورم، سی دہلی 66
طابع: سپرینٹ نظر ز ساؤنٹ ایوار کی دہلی 51

پیش لفظ

بیسوی صدی عیسوی میں دیکھ علوم کے ساتھ سائنسی علوم نے برق رفتاری سے ترقی کے منازل ملے کیے ہیں۔ ان کے ذخیرہ علوم کی عصری افادیت اور اہمیت کے پیش نظر سائنسی ایجادوں اور کارناموں سے متعلق تصاریف کا دنیا کی اہم اور ترقی یافتہ زبانوں میں ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ ترقی اردو بیورڈ کے قیام کے بعد مختلف علوم کے ساتھ سائنسی، تکنیکی اور طبی علوم کی کتابوں کے ترجموں کا کام شروع کیا گیا تو اصطلاحات کا مستملہ درپیش ہوا۔ سائنسی علوم میں جامعیت اور اختصار سے کام لیا جاتا ہے۔ اس نے اصطلاحات کے ذریعے معنی و مطالب کے جہان کی اہم و تغییبی کی جاتی ہے۔ بقول پروفیسر دھیلدین سلیم :

”اصطلاحیں در حقیقت اشارے ہیں جو حالات کے مجموعہ کی طرف دھن کو فراً منتقل کر دیتے ہیں“

ایسی ہی حقیقوں اور ضرورتوں کے پیش نظر ترقی اردو بورڈ نے اپنے قیام کے ابتدائی دور میں ہی سائنسی اور سماجی علوم کے مختلف شعبوں کے ماہر دوں پر مشتمل 118 اصطلاح ساز کمیٹیاں قائم کیں اور اصطلاح سازی کے سلسلے میں غلطانیہ یونیورسٹی کے دارالترجمہ میں ہوئے کام اور اسی طرح کے دوسرے سرمایہ سے استفادہ کرتے ہوئے ترقی اردو بیورڈ نے کچھ رہنمایا اصول بھی وضع کیے تاکہ اصطلاح سازی کے کام میں سہولت ہو اور ان کے لسانی مزاج اور معیار میں یکساںیت رہے۔ ان رہنمایا اصولوں میں مندرجہ ذیل اصول اساسی اہمیت کے حامل ہیں۔

۱۔ ایسی اصطلاحوں کو ترجیح دی جانی چاہیے جو مروج یا مقبول ہو چکی ہوں۔

- چاہے ان میں کوئی سانی یا معنوی سقم ہی کیوں نہ ہو۔
- 2- انگر کوئی اصطلاح ایک سے زائد معنوں میں مستعمل ہے تو ایسی صورت میں اس کے مختلف مقابیم کو علیحدہ علیحدہ الفاظ/اصطلاح سے واضح کیا جانا چاہیے۔
- 3- اصطلاحوں اور عام الفاظ میں فرق کیا جانا چاہیے۔ عام الفاظ کو فرنگ میں شامل نہیں کیا جانا چاہیے۔
- 4- کون سالفاظ اصطلاح ہے اور کون سامن ایک عام لفظ، اس کا فیصلہ مضمون کے ماہرین کی رائے اور حسب ضرورت معیاری انگریزی لغات کی مدد سے کیا جانا چاہیے۔ اگر ایسی لفنت یا لغات میں کسی لفظ کے کوئی خاص معنی یہ کہہ کر دیے گئے ہیں کہ یہ معنی کسی فن یا کسی علم سے مخصوص ہیں، تو اس فن یا علم کے مقاصد کے لیے اس لفظ کو اصطلاح تصور کیا جائے۔
- 5- جہاں تک نکن ہو سکے، ایک اصطلاح کا ہی اردو متبادل دیا جائے۔ بشرطیکہ وہ اصول نمبر 2 کی ذیل میں نہ آتا ہو۔
- 6- جہاں تک نکن ہو سکے، اصطلاح یک لفظی ہی ہونی چاہیے۔ ناگزیر صورتوں میں یہ دو لفظی بھی ہو سکتی ہے۔ ایسی اصطلاحوں میں کم سے کم دفعتہ کی جائیں جردوں سے زائد الفاظ پر مشتمل ہوں۔
- 7- ہندی اصطلاح کے اختیار کرنے کو (اگر ایسی اصطلاحیں اردو میں بآسانی تلقظہ اور تحریر کی جاسکتی ہوں) عربی اصطلاحوں کے اختیار کرنے پر مراجعت سمجھا جائے۔
- 8- اگر کسی اصطلاح کو ایک سے زائد الفاظ کے ذریعے ادا کرنے کی ضرورت پیش آئے تو حسب ذیل ترکیبات کو نیچے دری ہونا ترتیب کے اعتبار سے ترجیح دی جائے گی۔
- ۹- وہ ترکیبات جن میں اضافت یا تزویف ربط دجار کی قسم کے الفاظ و علامات نہ ہوں۔
- ب- وہ ترکیبات جن میں یا یہ سبق ہو۔
- ج- وہ ترکیبات جن میں اضافت ہو دلشرطیکہ ان میں ایک سے زائد اضافتیں ہوں تو ان میں کم سے کم ایک کو کامی، کے سے بدلتا جائے۔
- د- وہ ترکیبات جن میں کامی کے دغیرہ استعمال کیے جائے ہوں۔

و۔ اگر کوئی اصطلاح ایک سے زائد علم یا فن میں مشترک ہے اور آن سب علوم و فنون میں ایک ہی مفہوم میں استعمال کی جاتی ہے، تو اس کا اردو متبادل بھی ہر جگہ ایک ہی رکھا جائے گا۔

10۔ الفاظ کو وضع کرنے کے صورتوں میں اتنی کشادہ دلی ہدفی چاہیے کہ ہندی، عربی، فارسی یا عرب فارسی یا فارسی عربی اور پراکرت ترکیات بھی قابل قبول نہیں۔

11۔ اگر کوئی انگریزی اصطلاح مردج ہو اور عام فہم ہو تو اسے برقرار رکھا جائے۔ ایسی عام فہم اصطاحوں کے لیے اردو متبادلات بنانے یا تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

12۔ اعلام کو ایسا ہی لکھا جائے جیسے کہ وہ اردو میں مقبول ہو چکے ہیں۔ المثابہ اعلام جو ابھی مقبول نہیں ہوئے ہیں، ان کو حروف تہجی کے حدود کا لحاظ رکھتے ہوئے انہیں صحت کے ساتھ لکھا جانا چاہیے۔

13۔ اگر کوئی علم کسی اصطلاح کا حصہ بن چکا ہے تو اس علم کا اصول نمبر 12 کی روشنی میں اردو میں ترجیح کیا جانا چاہیے۔

اصطلاح سازی کا کام ایسے مشکل اور صبر آزمہ ادبی کاموں میں سے ہے جس کی تکمیل کے لیے وقت، لگن اور محنت درکار ہے۔ اصطلاح سازی کی اس اہم ذمہ داری سے چہدہ برہونے کے لیے ترقی اردو بیورونے ملک کے متاز مشاہیر اور ماہرین کا تعاون حاصل کیا ہے۔ مختلف اوقات میں اصطلاحوں کے فنی اور لسانی پہلوؤں پر بھی عینق غور و فکر ہوتا رہا۔ اس سلسلے میں ہر یہ آج تک کے کام کو بھی پیش نظر رکھا گیا۔ اس طرح ان کیمیوں کے جلسے طلب کیے گئے۔ کسی کمیٹی نے اپنا کام بیس اجلاس میں ختم کیا ہے تو کسی نے اس سے زیادہ میں۔ ان جلسوں میں اصطلاح سازی کے دوران ماہرین نے اپنے وسیع مطالعہ اور تجربے کے ساتھ ان کے صوری حسن اور معنوی پرتوں پر بھی دھیان دیا ہے اور اپنی فکری، ذہنی اور دانشوارانہ صلاحیتوں سے خوب کام لیا ہے۔ بہتر سے بہتر اصطلاحیں وضع کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر بھی دعویٰ سرخون ہمیں ہے کہ یہ وضع کردہ اصطلاحیں اپنے مصنفوں میں قول آخر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ کیوں کہ علم اور تحقیق کے میدان میں نئے محاد اور ترقی اور تبدیلی کے لیے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں اور رہنا چاہیے۔

جس کے نتیجے میں مناسب ترمیم اور اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تکنیکی اور سائنسی تصانیف اور ان علوم کی درس و تدریس کی زبان کو اس مقصد کے لیے طویل مدت تک تو اتر کے ساتھ پورے خلوص سے استعمال نہیں کیا گیا۔ اگر ایسا ہوتا تو ادبی اور تہذیبی تھاطر کے ساتھ سائنسی اور علمی میدانوں میں بھی اردو زبان میں پہنچاں چلا جائیں کا اندازہ ہو جاتا۔ ان حالات میں اصطلاح سازی کا کام بظاہر مشکل علوم ہوتا ہے۔ مگر اردو میں اصطلاح سازی کا مسئلہ زیادہ سنگین نہیں۔ کیوں کہ ایتنا ہی سے اس زبان کے خمیر میں سنسکرت، عربی اور فارسی جیسی عظیم زبانوں کی مٹی شامل ہے۔ عہد قدیم میں یہ تینوں زبانیں سائنسی، ادبی اور فتنی کارناموں کے اطمینان کا ذریعہ رہ چکی ہیں۔ اور یہ وہ زبانیں ہیں جنہوں نے علمی اور سائنسی معلومات کے ساتھ معنی آفرین تراکیتب و مرکبات اور علمی و سائنسی اصطلاحیں بھی عہد جدید کے سائنسدانوں اور مفکرین کو دیں، جن کی تفصیل انہیں زبانوں کی علم و ادب اور تاریخ کے صفات میں موجود ہے۔ یہ موقع نہیں کر ان کی تفصیلات سے بحث کی جائے۔

جاپر بن حیان (776^ق) نے جریور پ میں GEBCK کے نام سے مشہور ہے۔ 27 کتابیں علم کیمیا اور دیگر سائنسی علوم پر نکھلی ہیں۔ ان کا ترجمہ مختلف یورپی زبانوں میں ہو چکا ہے۔ اس نے ناترک (NITRIC) اسلفوریک ایڈ (SULPHURIC ACID) دریافت کیا تھا اور لیڈ کاربونیٹ (LEAD CARBONATE) تیار کرنے کے لیے آرسینک (ARCENIC) اور اسینٹی نوی (ANTINOMY) کو سلفانڈس (SULPHIDES) سے الگ کرنے کا طریقہ بھی دریافت کر لے میں امتیاز حاصل کیا تھا۔ المبر و فی نے سندھ و سستان میں 40 سال قیام کیا اور سنسکرت زبان پر عبور حاصل کیا تاکہ دیگر علوم کے ساتھ علم کیمیا اور علم نباتات بھی سندھ و سستان میں حاصل کرے۔ سندھ و سستان نے علم ریاضی میں وہ کام حاصل کیا تھا کہ سندھ و سستان کے عہدہ قدیم کے کارناء عہد جدید کے ترقی یافتہ مالک میں آج بھی یاقا عده تحقیق کا موضوع بنتے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ کہ جس زبان کے درشے میں سائنس اور دیگر علوم موجود ہیں۔ اس میں بہتر سے بہتر اصطلاحیں وضع کرنے کے لیے صرف ریاضی اور علوم سے باقاعدہ غور و ذکر کی ضرورت ہے۔ آزادی کے بعد اس کام کی تکمیل کا بڑا ترقی اردو بپر رونے اٹھانا اور خوشی و سرست کا مقام ہے کہ ترقی اردو بپر رونے مختلف مضمایں میں کام تصریح میں تکمل کر لیا ہے۔ ایسی علمی اصطلاحوں کی کچھ فرہنگیں چھپ کر منظہر عام پر آچکی ہیں۔ کچھ چھپ رہی ہیں اور

امید ہے کہ باقی فریگیں بھی جلدی شائع ہو جائیں گی۔ زیرِ نظر فریگ اصطلاحات کی تیاری اور تکمیل میں جن ماہرین کا ہمیں بھروسہ علمی و عملی تعاون حاصل رہا ہے۔ ان کے شکر گذار ہیں۔ اصطلاح سازی کے اس کام سے بیرون کے کچھ سابقہ عہدہ دار بھی منسلک رہے ہیں۔ زیرِ نظر فریگ کی اصطلاح سازی کی اراکین کے اسما، اگر ان حسب ذیل ہیں۔

1- ڈاکٹر سید عابد حسین چیئرمین
جامعہ ننگر۔ نئی دہلی

2- پروفیسر سید حسن مبر
دارالامان۔ بھنور پوکھر۔ پشاور۔ ۴

3- پروفیسر ظفر احمد صدر لقی میر
سابق صدر۔ شعبہ نلسون۔
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ علی گڑھ

4- ڈاکٹر سلامت اللہ مبر
پرسیل ٹیکس کالج۔
جامعہ ننگر۔ نئی دہلی۔

5- ڈاکٹر باقر مہدی میر
پروفیسر دین۔ فیکٹری آف ایجنسٹشن۔
جامعہ ملیہ اسلامیہ۔ نئی دہلی

6- ڈاکٹر عشت حسین میر

سابق صدر - شعبہ فلسفہ -

علی گڑھ مسلم یونیورسٹی - علی گڑھ

7- پروفیسر ساجدہ زیدی میر

ڈیپارٹمنٹ آف اجوکیشن -

علی گڑھ مسلم یونیورسٹی - علی گڑھ -

8- ڈاکٹر سلطان علی شیدا میر

اسٹنٹ پروفیسر فلسفہ -

اثرین اسٹی ٹوٹ آف میکنالوجی - کانپور -

9- ڈاکٹر عالم خواند میری میر

شعبہ فلسفہ -

علمائی یونیورسٹی - حیدر آباد -

10- ڈاکٹر مشکور سید میر

شعبہ فلسفہ -

علی گڑھ مسلم یونیورسٹی - علی گڑھ

11- عبدالاله ولی بخش قادری میر

ڈیپارٹمنٹ آف فاؤنڈیشن آن ایجکیشن - فیکٹری آف ایجکیشن
جامعہ ملیہ اسلامیہ - جامسٹنگ، نئی دہلی ११००२५

12- معین الدین میر

ڈیپارٹمنٹ آف پھرٹنگ، فیکٹری آف ایجکیشن
جامعہ ملیہ اسلامیہ - نئی دہلی

13- ڈاکٹر وحید اختر میر

پروفیسر، شعبہ فلسفہ
ملک گڑھ مسلم لیبریری - علی گڑھ

ڈاکٹر فہمیدہ میم
ڈاکٹر فہمیدہ میم
ڈاکٹر فہمیدہ میم

A

Abacus	گنتارا (تعلیم)
Abduction	قیاس احتمالی
Aberration	کج روی - کجی
Aberration, Mental	ذہنی کجی
Abhorrence	شدید کراہت
Ability	قابلیت، اپلیت
Ability, academic	علمی قابلیت
Ability, aesthetic	جالیاتی قابلیت
Ability, artistic	فنی قابلیت
Ability, constructive	تعمیری قابلیت
Ability, deductive	استقرایی قابلیت
Ability, general	عمومی قابلیت
Ability, inductive	استقرائی قابلیت
Ability, limited	محدود قابلیت
Ability, linguistic	سانی قابلیت
Ability, manual	دستی قابلیت
Ability, mechanical	میکانیکی قابلیت
Ability, mental	ذہنی قابلیت
Ability, musical	غناٹی قابلیت
Ability, native	خلقی قابلیت

Ability, num-erical	حسابی قابلیت
Ability, perceptual	اوراگی قابلیت
Ability, physical	جسمانی قابلیت
Ability, potential	امکانی قابلیت
Ability, practical	عملی قابلیت
Ability, reading	قابلیت خواندنگی
Ability, silent reading	خاموش مطالعہ کی قابلیت
Ability, spatial	مکانی قابلیت
Ability, special	خصوصی قابلیت
Ability, specific	شخصوں سے قابلیت
Ability, verbal	لفظی قابلیت
Ability grouping	گروہ بندی لمحاظ قابلیت
Ability profile	نقشہ قابلیت
Abiogenesis	خودزائی
Ablation	القطعاء
Abnegation	ترک - تیاگ
Abolition	خاتمه
Abreaction	باز آفرینی جذبہ
Absence	غیر موجودگی - غیر حاضری
Absence, excused	معاف شدہ غیر حاضری
Absence, unexcused	غیر معاف شدہ غیر حاضری
Absentee	غیر حاضر
Absenteeism	غیر حاضر باشی
Absent-minded	غائب دماغ
Absent-mindedness	غافل دماغی
Absolute	مطلق
Absolute, The	وجود مطلق

Absolute ethics	مطلق اخلاقیات
Absolute Judgment	تقدیر مطلق
Absolute proof	ثبوت قطعی
Absolutism	مطلقیت (فلسفہ)
Absolutism, political	سیاسی مطلق الغانی
Abstinence	پرہیز - پرہیزگاری
Abstract (Adj.)	بُعدِ فرق (صفت)
Abstract (N)	خلاصہ
Abstract duty	بُعدِ فرق
Abstraction	تجزیہ
Abstractionism	تجزیہت
Abstract symbol	بُعدِ علامت
Abstruse	دقیق
Absurdity	اہمال
Abulia	زوال ارادہ
Academic	علمی - تعلیمی (اعلیٰ تعلیم کے متعلق)
Academic achievement	علمی تحصیل
Academic Costume	قبائے فضیلت
Academic guidance	علمی رہنمائی
Academic regalia	سامان فضیلت
Academic robe	قبائے علم - قبائے فضیلت
Academic tenure	تعلیمی مدت
Academic year	تعلیمی سال
Academy	اکادمی
Academy, military	فوجی اکادمی
Academy, national	قومی اکادمی
Academy of Fine Arts	آرٹ اکادمی - اکادمی فنون نعمت

Accelerated	اسراع یافته
Acceleration	اسراع
Acceleration, negative	منفی اسراع
Acceleration, positive	بلشت اسراع
Acceleration, zero	صفرا اسراع
Accession (in Hume)	حصول
Accessory Sense	معاون حس
Accident	حادث - عرض
Accident, inseparable	عرض لامنفك
Accident, separable	عرض منفك
Accident (Variation), theory of	نظریه حادثات تفرقات
Accident clinic	مادش کلینک
Accident liability	زمره داری حادث - حادث پری
Accident proneness	حادثات میلان
Accidentalism	حادثیت
Accidental morality	احوالی اخلاق
Accommodation	صالحت - تطبیق
Accomplishment	کمال - تکمیل
Accomplishment age	عمر تکمیل
Accomplishment quotient (A.Q.)	درجه تکمیل
Accountability	جواب دہی
Accreditation	رسمی منظوری
Acculturation	اخذ تہذیب
Accuracy compulsion	جرد دستی
Accusation	الاام دہی
Acervus argument	سرفاطانی دلیل
Acetylcholine	اسی ٹیل کولائی

Achievement	تحصیل
Achievement quotient	درجہ تحصیل
Achilles argument	اکیلز دیسل
Achondroplastic dwarfism	ناقص الاعضا بدنیان
Achromatic	بے رنگ
Achromatism	بے رنگی
Achromatopia	بے رنگی
Acne Vulgaris	عام میاساروگ
Aconative	بے فعل
Acosmism	نقی کائنات
Acousticist	ماہر سمیعات
Acquired	اکتسابی
Acquisitiveness	ہو سناؤکی
Acromegaly	استخوان سر
Acrophobia	خوف بلندی
Act	فعل
Action	عمل۔ فعل
Action current	عملی رو
Action potential	صلاحیت فعل
Activation	تحریک فعل
Activator theory	نظریہ تحریک فعل
Active courage	فعال جرأت
Active potential	متوک صلاحیت
Activism	فعالیت
Activities, cocurricular	زیل درسی مشاغل
Activities, extra-curricular	غیر درسی مشاغل۔ زائد درسی مشاغل
Activity, ideational	تعوری عمل

Activity, intellectual	زیستی عمل
Activity, motor	حرکتی عمل
Activity cage	مشابهاتی پنجرہ
Activity group method	طریقہ عمل اجتماعی
Activity theory	نظریہ تعلیم بالعمل
Actual	واقعی - حقیقی
Actual entity	موجود واقعی
Actualisation	یافشنا
Actuality	واقعیت
Actus purus	عمل خالص - خالص عمل
Acuity	بازیگر (حس وغیرہ)
Adaptability	تطابق پذیری
Adaptation	تطابق
Adaptation, negative	منفی تطابق
Adaptation, attentional	توجهی تطابق
Adaptation syndrome	تطابق نجومہ علامات
Adaptive procedure	تطبيقی طریقہ کار
Adaptometer	تطابق پیما
Addiction	لت
Addison's disease	ایڈیسون مرضی
Additive primaries (colour)	بنیادی رنگ
Adeism	اکھاراں الہیت
Adequation	کفايت
Adiaphora	لا اخلاق رسم
Adipasis dolorosa	موڑی فربی
Adiposogenital dystrophy	نقش فربی چکشو ناس
Adjustive reaction	مطابقی رد عمل

Adjustment	سازگاری
Adjustment, constant	نامنوع سازگاری
Adjustment, emotional	جذباتی سازگاری
Adjustment, instructional	تدریسی سازگاری
Adjustment, moral	اخلاقی سازگاری
Adjustment, personality	شخصیتی سازگاری
Adjustment, pupil	سازگاری طلباء
Adjustment, recreational	تفریحی سازگاری
Adjustment, school	درسگاهی سازگاری
Adjustment, social	سمابی سازگاری
Adjustment, vocational	پیشہ دراند سازگاری
Adjustment stress theory	نظریه مطابقی دیابتز
Administration	استظام - نظم و نسق - انتظامیه
Administration, classroom	انتظام جماعت
Administration, dual type of	دو عملی انتظام
Administration, educational	تعلیمی انتظام
Administration, financial	مالی انتظام
Administration, general	عام انتظام
Administration, personnel	انتظام عملہ
Administrative committee	ب مجلس انتظامیہ - انتظامی کمیٹی
Administrative office	انتظامی دفتر
Administrative organization	انتظامیہ نفارت
Administrative policy	انتظامی پالیسی
Administrative technique	انتظامی تکنیک
Administrator	ناظم
Administrator, educational	ناظم تعلیم
Admiration	ترسین

Admission	داخلہ
Admission, nominated	نام زدہ داخلہ
Admission, selective	انتخابی داخلہ
Admission age	عمر داخلہ
Admission fee	نیس داخلہ
Admission form	فارم داخلہ
Admission requirements	شرطیں داخلہ
Adolescence	عنفوان شباب
Adolescent	نو بالائی
Adolescent spurt	نو بالائی جست نبو
Adolescent sterility	نو بالائی بے شری
Adoption	تبیینیت
Adoptionism	نظریہ تبیینیت مسح
Adoration	پرستاری - پرستش
Adrenal androgen	درقی رجولین
Adrenin	آڈرنین - غددور کی رطوبت
Adult	بالغ۔ جوان
Adult, superior	برتر جوان
Adultery	حرام کاری - بدکاری
Adulteration	ملادوت
Advanced placement programme	برتر تعلیم پروگرام
Advice therapy	صلاح کارانہ طریقہ علاج
Advisor, personal	شخصی صلاح کار
Advisor, social	سمابھی صلاح کار
Advisor, student	مشیر طلباء
Advisor teacher	صلاح کار معلم
Advisory committee	شاورتی کمیٹی

Advisory council	مشاورتی کونسل
Aeon	اشراق اول
Aesthetic	لاگر- دبل پستل
Aesthesiometer (=esthesiometer)	لس پما
Aesthesiometry	پیمائش لس
Aesthete	جمال پرست
Aesthetic enjoyment	جمالیاتی خط
Aesthetic experience	جمالیاتی تجربہ
Aesthetic intuitionism	جمالیاتی وجدانیت
Aestheticism	جمالیات
Aesthetic judgement	جمالیاتی اندازہ قدر
Aesthetic morality	جمالیاتی اخلاق
Aesthetic preference	جمالیاتی ترجیح
Aesthetics	جمالیات
Aesthetics, Psychology of	نفسیات جمالیات، جمالیات نفسیات
Aesthetics, transcendental	ماورائی جمالیات
Aesthetic self-expression	جمالیاتی خود اظہاری
Aesthetic sense theory	نظریہ جس جمال
Aestheto-kinetic coordination	لمسی حرکی موافقت
Aetiology	نظریہ علت- علیات
Affect	تاثیر
Affect, displacement of	نقش تاثیر
Affect, fixaton of	ترکیز جذبہ
Affection, Protection	جذبہ تحفظ
Affection deficiency	کسر تاثیر
Affective arousal theory	نظریہ جذبہ انجیزی
Affective expansion	احساسی توسعہ

Affective experience	تأثُّرٌ إِيجَادِيٌّ
Affective objective naturalism	تأثُّرٌ مُعْرَفِيٌّ نَطْرِيٌّ
Affective state	تأثُّرٌ كَيْفِيٌّ
Affective theory (ethics)	اِحْسَانٌ نَظْرِيٌّ (إِلْهَامِيٌّ)
Afferent	دُرُونِيٌّ
Affiliation	الْمَجَاقُ / مَوَافِقَةً
Affinity	مَمَاثِلَةً
Affirmative	أَشْبَاتِي
A fortiori	تَوْثِيقٌ مُزِيدٌ - مُزِيدٌ تَوْثِيقٌ
After care	نَگِيْبَةٌ دَاشْتَ بَعْدِ عَالَةٍ
After image	شَبَيْهٌ مَا بَعْدَ
After image, negative	مُنْفِيٌّ شَبَيْهٌ مَا بَعْدَ
After-life	حَيَاةٌ مَا بَعْدَ
After-school schedule	نَظَامُ الْأَوْقَاتِ بَعْدِ اسْكُولَةٍ
After sensation	تَحْسِيسٌ مَا بَعْدَ
After image, positive	مُشْتَبِطٌ شَبَيْهٌ مَا بَعْدَ
After sensation, negative	مُنْفِيٌّ تَحْسِيسٌ مَا بَعْدَ
After sensation, positive	مُشْتَبِطٌ تَحْسِيسٌ مَا بَعْدَ
Agape	حُبٌّ
Agathism	خَيْرٌ پُرْسِتِيٌّ
Agatho biotik	حَيَاةٌ صَالِحةٌ
Agathology	نَظَرِيَّةٌ لِلْخَيْرِ
Age	عُمْرٌ
Age, achievement	تَحْصِيلٌ عُمْرٌ
Age, basal	اسْاسِيٌّ عُمْرٌ
Age, Jazz	جاَزِ عَهْدٌ
Age, mental (M.A.)	ذَهْنِيٌّ عُمْرٌ

Age, school admission	عمر دخل مدرسہ
Age, school leaving	عمر تکمیل درس
Age grade report	عمر گزینہ رپورٹ
Age grade survey	عمر گزینہ جائزہ
Age limit	تسلیم عمر
Agency, accreditation	تسلیم کننده احیانی
Age norm	او سط کارگزاری بمحاظہ عمر
Agensia	بے مذگی
Agent	عامل۔ فاعل
Age record	عمر ریکارڈ
Age regression	عمری رجعت
Age scale	عمر پیمانہ
Age Subject	مضمونی عمر
Agglutination (Ph)	خلطِ الفاظ
Aggregate	مجموعہ
Aggression	چارحانہ کارروائی۔ جارحیت
Aggression, displaced	مستقل جارحیت
Aggression, elementary	اہستادائی جارحیت
Aggression, organized	منظُم جارحیت
Aggressive	چارحانہ
Aggressiveness	جارحیت
Aging	پڑھیانا
Agitated depression	اضطرابی افسردگی
Agitation	اضطراب۔ احتیاج
Agnoiology	نظریہ جمل
Agnosia	فتریشتا خی
Agnosia, auditory	سمعی فتریشتا خخت

Agnosia, visual	بصري نفور شناخت
Agnostic (Ph)	لا ادری
Agnosticism	لا ادریت
Agnosticism, philosophical	فلسفیام لا ادریت
Agnosticism, scientific	سائنسی لا ادریت
Agnosy	جهش عام - جهش
Agoraphobia	فوتب کشانی
Agraphia	نقدان قوت تحریر
Agreement	مطابقت - توافق
Agreement, double	دو هرآ توافق
Agreement, method of	طریقیه توافق
Agreement, single	اکبرآ توافق
Agreement (and difference), joint method of	متعدده طریقیه توافق و تناقض (غایبانه توافق)
Agreement in absence	حاضرانه توافق
Agreement in presence	حاضرانه توافق
Aid	امداد - مدد
Aid, audiovisual	سمعی بصري امدادی سامان
Aid, Educational	تعلیمی امداد
Aid, Financial	مالی امداد
Aid, Government	سرکاری امداد
Aid, instructional	تدريسی امدادی سامان
Aid, scholarship	امداد و ظاللف
Aid, school	امداد مدرسه
Aid, special education	امداد خصوصی تعلیم
Aid, state	رباستی امداد
Aid, student	امداد طلب
Aid, study	تعلیمی امداد

Aided-recall technique	امدادی بازیافت تکنیک
Aids, objective	خارجی امدادی سامان
Aim	مقصد
Aim, cultural	تہذیبی مقصد
Aim, deferred	ملتوئی مقصد
Aim, individual	افرادی مقصد
Aim, inhibited	افہار بستہ مقصد
Aim, social	سماجی مقصد
Aim, specific	شخصی مقصد
Air-Humidity	رطوبت ہوا
Akinesia	بے حرکتی
Akinesthesia	حرکتی بے حسی
Akrasia	ایرازی گمزوری
Alarm reaction	ہراسانہ رد عمل
Alcoholic deterioration	الکھولی اخخطاط
alcoholic deterioration, chronic	مزمن الکھولی اخخطاط
Alcoholic hallucinosis, acute	شدید الکھولی وہم
Alcoholic phase, crucial	نازک الکھولی دور
Alcoholic Phase, prodromal	پیش الکھولی دور
Alcoholism	الکھولیت
Alertness	مستعدی
Alexia	فقدان قوت مطالعہ
Algebra of logic	الجبرا منطق
Algedonic (Ph)	متعلق الم ولذت
Algedonics (Ph)	مطالعہ الم ولذت
Algesia	حساسیت درد
Algophilia	درد پسندی

Algophobia	در در ترسی
Alienation	بیگانگی۔ اجنبیت
Alienist	بصدق صحت ذہنی
Alimentary canal	معدے کی نالی
Allegory	تہشیل
Allergy	الرجی
Alley problem	مسکن التباس خطوط متوازی
All inclusive	مجموعی ہمہ گیر
Alloerotism	دیگر لذتیت
All pervasive	ہمہ ٹھوڑوں
Allopsychic delusion	روش روگی۔ انفلان سوئے نہیں سو طینیت
Alogical	لامنطقی۔ لا استدلالی۔
Alteration	تبدیلی
Alternative	بدل
Alternative (method)	ستبارل (طریقہ)
Alternative, double	دو ہرستبارل
Alternatives, law of (philos)	قانون ستبارلات (فلسفہ)
Alternative, single	اکھرستبارل
Altruism	نظریہ فلاح عامہ۔ جذبہ فلاح عامہ
Altruist	پیر و نظریہ فلاح عامہ۔
Altruistic hedonism	ہمہ ظالمی لذتیت
Alzheimer's disease	ان متر مرفی
Amaurotic idiocy	قتوں عقلی دکور بصری (پیدائشی مرفی)
Ambidexterity	دو ہتھاں
Ambiguous	بسہم
Ambition	خواص ملے۔ تمنا
Ambivalence	دور خیت

Amblyopia	ضعف بصر
Ambulatory schizophrenia	مرض سلاني انتشاری - مرض سلاني شرذماني
Amechanical	غير ميكانيكي
Ameliorative device	راحي تدبير
Amentia	ضعف دماغ
Amnesia	نسيان
Amnesia, anterograde	نسيان ما يبعد
Amnesia, hysterical	هysteriac نسيان
Amnesia, organic	عصوياني نسيان
Amnesia, retrograde	نسيان ما قبل
Amobarbital	امباربيتال
Amoral	لا اخلاقي
Amoralism	لا اخلاقيات
Amorality	لا اخلاقيات
Amoristic sentiment	عشقي جزئي
Amphetamine	اميغني سيمين
Amplification	افزونی / تضخ
Amplifier	آلة افزونی
Amplitude	اطلاقي وسعت
Amplitude, distortive	مسخ شده اطلاقي وسعت
Amusement	تفتن
Anabolism	تعويض خلويات
Anachronism	خلاف زمانه - اشتباہ تاریکی
Anaclisis	جذرياني سهيارا ظبی
Anadipsia	شدت شگهي (غير طبيعي)
Anaesia	مبهم شور
Anagogic interpretation	باطلي تعويض دينيات) - الافق تعويض دينيات)

Anal character	مہرزاںی خصوصیت
Analeptic	ٹاقت بخش
Analgesia	بے سُنی درد
Analogical	تمثیلی
Analogies of experience	تمثیلات تجربہ
Analogy	تمثیل
Analogy, bad	ناقص تمثیل
Analogy, fake	غلط تمثیل
Analogy, good	درست تمثیل
Analogy, law of	اصول تمثیل
Analogy, strength of	استحکام تمثیل
Analogy, weak	ضعیف تمثیل
Anal sadistic-stage	مہرزاںی سادیتی مرحلہ
Anal syndrome	مہرزاںی علامت
Analysis	تحلیل - تجزیہ
Analysis, formal	صوری تجزیہ
Analysis, intentional	مقصدی تجزیہ
Analysis, material	مادی تجزیہ
Analysis, philosophical	فلسفیانہ تجزیہ
Analysis, scatter	تفصیلی تجزیہ
Analyst	تحلیل کار - تجزیہ کار
Analytic	تحلیلی
Analytic, transcendental (Ph)	ماورائی طریقی تجزیہ
Analytic hedonism	تجزیاتی لذتیت
Analytical	تجزیاتی
Analytic method	تحلیلی طریقہ - تجزیاتی طریقہ
Analytico-synthetic	تجزیاتی ترکیبی

Anamnesis	بازیابی واقعات قبل از مرض
Anarchism	نژاد پسندی - انارکزم
Anarchy	نراج
Anasomia	فقدان شامه
Ancestor worship	اجداد پرستی
Androgen	رجولیه
Androgenic	رجولیاتی
Anecdotal method	واقعی طریقه
Anechoic chamber	صدابنده کمراه
Anemia	قلبت خون
Anergetic type	غیر توانا
Anger	غضبه
Anglicist-orientalist controversy	فرنگی مشترق زراع
Anguish	کرب
Anima	روح حیوانی (فلسفه)، اینما (نفسیات)
Animal faith	حیوانی عقیده
Anima mundi	روح کائنات
Animal neurosis	حیوانی خلل اعصاب
Animal worship	حیوان پرستی
Animism	تہمہ روحیت
Animus	روح حیوانی
Ankle clonus	پخنچ کا تشخیص
Annihilation	فنا
Annoyance	ناگواری
Anonie	اخیرانی اقدار
Anoesis	لا ادراکی
Anoetic	متصل بـ لا ادراکی

Anorexia	عدم اشتتها
Anorexia nervosa	اعصامي عدم اشتتها
Anoxia	نیجی قلت آسیجن
Answer-key	جواب نامہ
Answer pattern	وضع جواب
Answer sheet	جواب کاغذ
Antecedent	سابقہ - سابق - مقدم
Antecedent, immediate	متصل سابقہ
Antecedent, invariable	غير متغير سابقہ
Antecedent, remote	بعید سابقہ
Anthropopathism	تشیبیہ احساس انسانی
Anthropocentrism	انسان مرکزیت
Anthropolatry	انسان پرستی
Anthropology, Philosophical	فلسفیانہ انسانیات
Anthropomorphic	بُشی
Anthropomorphism	تجسمیت
Anti attitude	مخالفت رویہ
Anti-anxiety drug	رافع تشریش دروا
Anti-bifurcationism	مخالفت در تقسیمیت
Anti-cathaxis	تقلیب ارتکاز (نفسی توانان)
Anti-ceremonialism	رسمیت رشمی
Anticipation	پیش بینی
Anticipative method	پیش بینی طریقہ
Anticipatory	پیش بین
Anticipatory response	پیشیں جوابی عمل
Anti-hedonism	خلات لذتیت
Anti-histamine	رافع ہستامین

Anti-individualism	نافرادیت پرستی - مخالف انفرادیت پرستی
Anti-intellectualism	مخالف عقل پرستی - ناعقل پرستی
Antilogism	قياس متناقض
Antilogy	تناقض
Antimaterialism	مخالف مادیت - نامادیت
Antimetaphysics	مخالفت ما بعد الطیعت
Anti-naturalism	مخالف فطرتیت (نظریه)
Antinomianism	لا اخلاقیت
Antinomy	تناقض نظریات
Antipathy	تنفس
Anti-rationalism	مخالف عقلیت (نظریه)
Anti-reductionism	مخالف تحریلیت
Antisocial	سماج دشمن
Anti-system	نظام مخالف
Antithesis	ضد - ضد دعوی
Antithetic, transcendental	مادرانی اضداد
Antitype	عدم موافق
Anxiety	تشویش
Anxiety, displacement of	انتقال تشویش
Anxiety, neurotic	مریضانه تشویش
Anxiety attack	دوره تشویش
Anxiety, castration	تشویش آختگ
Anxiety reaction	تشویشی رُّ عمل
Apagoge (Ph)	رسیل اہمای
A parte ante	ماقبل
A parte post	مالبعد
Apathia	شانتی - سکون قلب

Apathy	بے حسی
Apercu	بلا واسطہ ادراک
Aphasia	فن تر گویا نی
Aphasia, motor	عضو یا تی فن تر گویا نی
Aphasia, nominal	لفظی فن تر گویا نی
Aphasia, semantic	معنوی فن تر گویا نی
Aphasia, speech	فن تر تقریب
Aphasia, syntactical	خوبی فن تر گویا نی
Aphasia, verbal	سان فن تر گویا نی
Aphonia	فقدان صوت
Aplasia	سد نشود نہاد (خلقی)
Apocalyptic	کشفی
Apodosis	کلمہ مشروط
Apoeatastasis	نجات کل
Apologitics	مسلک اغتنام
Apology	اعتذار
Apolonian	آپالوی
Apophanisis	نظریہ تصدیق (ہمیشہ)
Apoplexy	دماغی فارج
Aporea	اشکال
Aposteriori	حصولی
Apostle	حواری - ہادی
Apatheosis	دربوی کرن
Apparatus, accessory	معاون سامان
Apparent	ظاہر - ظاہری
Appearance	ظاہری شکل - شہور
Apperception	تعقل

Apperception, empirical	تجربی تعلق
Apperception, transcendental	قبل تجربی تعلق جهودی تعلق
Apperception test	آزمایش استدراک
Appetite	اشتها. بحوك
Application	اللاق
Application, blank	خاکر در خواست
Applied ethics	الطلقی اخلاقیات
Applied science	الطلقی سائنس
Appointment	تقرر
Appraisal interview	جایچ اندر ویو
Appreciation	قدرشناسی بذوق
Apprehension	خدشه. درک
Apprentice, paying	فیس دینده کارآموز
Apprentice indenture	اقرار نامه کارآموزی
Apprentice job	کارآموزی خدمت
Approach	طرزنظر
Approach, analytical	تجرباتی طرزنظر
Approach, convergent	ارتکازی طرزنظر
Approach, divergent	انفرابی طرزنظر
Approach, formal	رسمی طرزنظر. صوری طرزنظر
Approach, informal	غیررسمی طرزنظر
Approach, logical	منطقی طرزنظر
Approach, objective	معروفی طرزنظر
Approach, philosophical	فلسفیانه طرزنظر
Approach, psychological	نفیانی طرزنظر
Approach, recreational	تفریحی طرزنظر
Approach, social	سماجی طرزنظر

Approach, syntheic	ترکیبی طرز نظر
Approach, unified studies	نظریه اتحاد درسیات
Approachability	رسانی پذیری
Approach gradient	خط رجوع
Approbative theory	نظریه پسندیدگی
Approval	منظوری پسندیدگی
Approval, social	سمابی قبولیت
Approximation conditioning	تقربی التزام
Apraxia	دست روزی مغزوری
Apraxia, ideational	تصور مغزوری
Apraxia, ideokinetic	تصوری حرکی مغزوری
Apraxia, limb ¹ kinetic	اعضوی حرکی مغزوری
Apriori	حضوری
Aptitude	استعداد
Aptitude, mechanical	میکانیکی صلاحیت
Arachnoid	وسطی جمی (دماغ)
Arbitration, compulsory	جری شانش
Archaic	نتیق - متروک (لفظ، طرز)
Archaism	دقیانزیست - قدامت پسندی
Archebiosis	آغاز حیات
Archetype	صورت اولی - آرکی تایپ
Area superintendent	علاءه سپزنشدن
Aretaic	علم فنهاش
Argument	استدلال - دلیل
Argument, cogent	دلیل شانی
Argument, plausible	بنطابر معقول دلیل

Argument, teleological	غایتی دلیل
Argument, ad-hoc	حسپ ضرورت دلیل
Argument, antistrophon	بازگرد دلیل
Argument, Anselmian	انسلم دلیل وجودیاتی دلیل)
Argument, cosmological	کائناتی دلیل
Argument, first cause	دلیل علت اولی
Argument, moral	اخلاقی دلیل
Argument, ontological	وجودیاتی دلیل
Argument, physico-theological	طبعی الہی دلیل (غایتی دلیل)
Argument, probable	احتمالی دلیل
Argument, completion test	تمکیل دلیل آزمائش
Argumentum ad baculum	تهدیدی دلیل
Argumentum a fortiori	دلیل بر بناء قیاس
Argumentum ex-concesso	استنباطی دلیل
Argumentum hominem	الزائی دلیل
Argumentum ignorantiam	دلیل بر بناء جهل مخاطب
Argumentum judicium	دلیل بر بناء فہم عامہ
Argumentum misericordiam	دلیل رحم طبی
Argumentum populum	جنبدیان دلیل
Argumentum rem	بر محل دلیل
Argumentum verecundiam	عقیدتی دلیل - دلیل بر بناء چنیاٹی عقیدت
Argyll Robertson pupil	آرگل رابرٹسن پلی
Aristotalianism	ارسطوئیت - ارسطاطالیت
Aristotle's dictum	قول ارسطو
Aristotle's experiment	ارسطوئی تجربہ
Arithmetic, formal	نظری علم حساب
Arithmetic, functional	عملی حساب

Arithmetic, traditional	ریاضی علم حساب
Arithmetic mean	حسابی اوسط
Arithomania	خطبہ شمار
Arrogance	تکبر
Art	آرٹ - فن
Art, classical	کلاسیکی آرٹ
Art, graphic	گرافیک آرٹ - ترسیمی آرٹ
Art, plastic	تشکیلی آرٹ
Art, romantic	رومانی آرٹ
Art, symbolic	علمی آرٹ
Art Education	تعلیم آرٹ
Arteriosclerosis	صلابت شریان
Articulation	تصویریت - اداییگی انفاظ
Articulatory signal practice	صوتی اشارہ مشتی
Artificial task test	مصنوعی کام جائیغی
Art impulse	فنی حرکت
Art school	آرٹ اسکول
Ascendance	غلبہ
Ascendance-submission test	بالادستی و زیر دستی جائیغی
Asceticism	رہبانیت
Ascetic principle	راہبانہ اصول
Ascitas	دھر و بالذات
Asexuality	لا جنسیت
Aspect	پہلو - مرغ
Aspiration	آرزو
Aspiration, level of	سطح آرزو
Asphyxia	اختناق - دم گھٹنا

Assent	رضامندی
Assertion	دعویٰ۔ ادعا
Assertion-structured therapy	ادعا ساخت طریقہ علاج
Assertiveness	ادعا یت
Assertum	ادعا
Assessment	جاہزہ
Assessment programme	پروگرام جائزہ۔ جائزہ پروگرام
Assignment	تفویض
Assignment, teacher	کاربرائے استاد / معلم
Assignment cards	تفویض کارڈ
Assignment therapy	تفویضی علاج
Assignment unit	تفویضی اکاؤنٹ
Assimilation	جزب پہنانا
Associate response	ایستلانی جوابی عمل
Associates, paired	ایستلانی جڑوئے
Association	ایستلات
Association, affective	جزبائی ایستلات
Association, backward	معکوس ایستلات
Association, constrained	محدو در ایستلات
Association, controlled	پابند ایستلات
Association, free	آزاد ایستلات
Association, law of	اصول ایستلات
Association area	دارڑہ ایستلات
Association clang	ایستلانی جملکار
Associationism	ایستلائیٹ
Association of ideas	ایستلات خیالات
Association neural	اعصابی ایستلات

Associative	ایتلاٰنی
Association, object-word	شے-لفظ ایتلان
Association, word-word	لفظ-لفظ ایتلان
Associative facilitation	ایتلانی سہولت
Associative spread (Concomitant learning)	ایتلانی توسعہ رہم و قرعی آموزش
Associative-set-method	ایتلانی سیٹ طریقہ
Associative anamnesis	ایتلانی بازیابی
Associative shifting, law of	قانون انتقال ایتلان
Assumption	مفروضہ
Assumption, methodological	منہاجی مفروضہ
Astasia-abasia	(نفیاٰت) معذوری نقل و تیام
Asthenia	ضعف
Asthenic reaction	ضعف روعل
Astigmatism	نقش ماں سک
Astraphobia	صاعقه ترسی
Asylogistic	لاتیاسی
Asymmetry	عدم نشانہ
Asynchronous growth	ناہم وقت بالسیدگ
Ataraxi	طمأنیت - اطمینان
Ataraxic	اطمینانی
Ataxia	اختلال عضلات حرک
Atheism	وہبہت
Athletic	ورزشی
Atomism	نظریہ جوہریت
Atomism, dynamic	حرکی جوہریت
Atomism, logical	منطقی جوہریت
Atomism, psychological	نفیاٰتی جوہریت

Atomism, qualitative	کیفی جوہریت
Atomism, quantitative	کمی جوہریت
Atomism, sensory	حسی جوہریت
Atonement	کفارہ
Atonicity	ناقرانی
Atrophy	ناکاری
Attachment	لگاؤ
Attachment, infantile	طفلانہ لگاؤ
Attainment	حصول ا استعداد
Attainment, catastrophic	مارثناقی حصول
Attainment, progressive	تدریجی حصول
Attendance	حاضری
Attendance, personnel	علمکر حاضری
Attention	توجه
Attention, distributed	منقسم توجہ
Attention, fluctuation of	تفیر توجہ
Attention, focus of	مرکز توجہ
Attention, habitual	عادی توجہ
Attention, intensive	گھری توجہ
Attention, involuntary	غیر ارادی توجہ
Attention, primary	طبعی توجہ
Attention, secondary	ثانوی توجہ
Attention, spontaneous	بے ساختہ توجہ
Attention, sustained	قائم توجہ
Attention, visual	بصری توجہ
Attention, volitional	ارادی توجہ
Attention, voluntary	ارادی توجہ

Attention span	رسخت توجه
Attitude	رویتی
Attitude, ambivalent	دودرخ رویتی
Attitude, emotional	جدیانی رویتی
Attitude, receptive	ایجادی رویتی
Attitude, social	سماجی رویتی
Attitude constellation	مجموعه رویات
Attitude scale	رویتی پیما
Attitude theory	نظریه رویات
Attitudinal	رویاتی
Attitudinal climate	رویاتی نفا
Attitudinal variable	رویاتی متغیره
Attraction	کشش
Attribute	عرض-صفت
Attribute, differentiating	امتیازی صفت
Attribute, substantial	حقیقی صفت
Attrition	تخنیف
Attunement	هم سازی
Audibility	ساعات پذیری
Audibility range	بعد و در ساعت
Audible	ساعات پذیری
Audiogenic seizure	صومورت زانگیزه دوره
Audiogram	ساعات نگارش
Audiometer	ساعات پیما
Audio-oscillator	صوت کار آن
Audio-visual coordinator	سمع بصری توافقن کار
Auditorium	آڈیتولریم

Audition	سماع
Auditory aphasia	نفور سمعی الفاظ
Auditory localization	سمعی تبیین سمت
Auditory movement	سمعی حرکت
Auditory ossicle	آذنی استخوان
Auditory presentation	سمعی پیش کشش
Auditory space perception	سمعی ادراک مکان
Augustinianism	آگوستینی نظریه
Aura(epileptic)	کیفیت قبل صرع
Aural harmonics	سمع زائر
Auricle	کان
Austerity	درستی - سختی - زبر
Authenticity	معبری - معتبر ہرنا - مستند ہرنا
Authoritarianism	حکم پسندی
Authority	اختیار - سند - حاکم
Authority, delegated	نیابتی اختیارات
Authority figure	مثال اقتدار
Autism	تخیل پرستی
Autistic child	تخیل پرست بچہ
Autistic schizoid component	تخیل انتشار عنصر
Auto-educative	خود تعلی
Auto-erotism	خود لذتیت
Auto-genic	خود زاییدہ
Auto-instructional device	خود تدریسی تدبیر
Auto-intoxication	خود سمیت
Automated equipment	خود کار آلات
Automatic	خود کار

Automatisation	خود کاری لہنا
Automation	خود کاری
Automation theory	نظریہ کاریت
Automatism	خود کاریت
Automatism, conscious	شعوری خود کاریت
Automatism, psychological	نفسیاتی خود کاریت
Automatism, sensory	حسی خود کاریت
Automatic conformity	خود کارانہ مطابقت
Automative mechanics test	خود کارانہ مشینی جائز
Autonomic	خود اختیار
Autonomic intuitionism	خود اختیار و جدایت
Autonomic reactivity	خود اختیار رو عمل
Autonomous	خود اختیار
Autonomy	خود اختیاری
Auto-psychic delusion	اٹلاںی سوئے ظن
Autosome	غیر جنسی لوئیہ
Auto-suggestion	خود ایمانی - خود ایما
Autotelic	خود غایتی
Auxiliary egos	ذیلی اتناں (سائکوڈراما کے کردار)
Avarice	حرص
Average, statistical	شماریاتی اوسط
Average deviation	اوسط انحرافات
Average error	اوسط خطأ
Aversion	اکراہ
Aversive centre	اگراہی مرکز
Aversive consequence	اگراہی نتیجہ
Avitaminosis	تفلت حیاتین

Avocation	شنل (ضمیر پیشہ)
Avoidance conditioning	احترازی انتظام
Avoidance gradient	خط احتراز
Awareness	آگہی
Awe	رعب
Axillary	بغلی
Axiom	اصول متعارف
Axiomatic method	طریق اصول متعارف
Axon	حکمران

B

Baccalaureate service	تقریب تقسم اسناد
Backwardness	پھرڑاں۔ پھاندگی
Banausic	معنی افادی
Bandwidth	ریڈیو پی۔ پڑائی
Baptism	بنتسا
Barbara	بار برا
Bar diagram	پٹی چارٹ
Baroco	بارا کو
Basal anxiety	اساسی تشویش
Basal metabolic rate(B.M.R.)	اساسی شرح استعمال رفتی۔ ایم۔ آر)
Basal metabolism test	اساسی استعمال جاتی
Base rate	بنیادی شرح
Basic anxiety	بنیادی تشویش
Basic neurotic anxiety	بنیادی عصبانی تشویش
Basilar membrane	اردنی جلی
Battery, differential aptitude	تقریب ملاحتیت جاتی مجموعہ
Bazzgroups	بید بلسہ مباحثہ گروپ
Beard's disease	بیزڑ مرفن
Beat	حرکت
Beatific vision	رویت حق

Beatitude	آنند - سعادت
Beauty	حسن
Becoming	نمود
Beginning spurt	جست آغاز
Begriffe	تصور
Behaviour	کردار
Behaviour, aberrant	کج روی - کجہر و کردار
Behaviour, abient	احترازی کردار
Behaviour, acquired	اکسائی کردار
Behaviour, adaptive	مطابقت پذیر کردار
Behaviour, adjustive	مطابقی کردار
Behaviour, aggressive	جارحانہ کردار
Behaviour, anti-social	سماج خلاف کردار
Behaviour, ascendant	دبگ کردار
Behaviour, atypical	خلاف ملایپ کردار
Behaviour, centralized	مرکز بند کردار
Behaviour, collective	اجتمائی کردار
Behaviour, competitive	مساوی کردار
Behaviour, cooperative	تعادی کردار
Behaviour, covert	محضی کردار
Behaviour, creative	تحلیقی کردار
Behaviour, decentralized	لام مرکز بند کردار
Behaviour, detour	پھر بند کردار
Behaviour, dominant	غالب کردار
Behaviour, emotional	جدیباتی کردار
Behaviour, equilibratory	توازنی کردار
Behaviour, group	گروہی کردار

Behaviour, insightful	بصیرانه کردار
Behaviour, institutional	اداری کردار
Behaviour, learned	تحصیلی کردار
Behaviour, logical	منطقی کردار
Behaviour, moral	اخلاقی کردار
Behaviour, negative	منفی کردار
Behaviour, operant	فعال کردار
Behaviour, overt	ظاهر کردار
Behaviour, positive	ثبت کردار
Behaviour, prenatal	قبل پیدائش کردار
Behaviour, primitive	اوائلی کردار
Behaviour, problem	مسئله خیز کردار
Behaviour, purposive	مقصدی کردار
Behaviour, rational	عقلی کردار
Behaviour, respondent	جوایی کردار
Behaviour, retrieving	تلائی کردار
Behaviour, social	سماجی کردار
Behaviour, substitute	عوضی کردار
Behaviour, withdrawn	علاحدگی پسند کردار
Behaviour-centre	مرکز کردار
Behaviour control	ضبط کردار
Behaviour disorder	خلل کردار
Behaviour-pattern	طرز کردار
Behaviour segment	پاره کردار
Behaviour therapy	کرداری طریقہ ملاج
Behaviour unit	کردار اکائی
Behaviourism	کرداریت (نظریہ کرداریت)

Behaviourist	کرداریت پسند
Being	ہستی
Being, pure	ہستی معرف
Belief	عقیدہ
Belief, affirmative	ایجادی عقیدہ
Belief, negative	سلبی عقیدہ
Belief, rational	عقلی عقیدہ
Belief-value matrix	عقیدہ قدر نفث
Belongingness	احساس تعلق
Bender gestalt (test)	بینڈر گیٹسالٹ (رجاہخ)
Beneceptor	فیض آفرید
Benefaction	احسان
Benevolence	کرم
Benign	ا۔ کرم گستر ۲۔ خفیت
Benignity	کرم گستری
Benign personality	کرم گستر سخیت
Benign psychosis	خفیت جنون
Benign stupor	خفیت غشی
Benthanism	سلسلہ بینتھم
Benzedrine	پینزی ڈرائیں
Berkeleianism	برکلیت
Berserk	مجھوں غارت گر
Besoin	حاجت
Beyond good and evil	سادرائے خیر و شر
Bias	جانب داری - میلان
Biased distribution	غیر متوازن تقسیم
Biblical theology	اتجیلی دینیات

Bibliographical sources	کتابیات مأخذ
Bibliolatory	کتاب پرستی
Biconditional	دوسہرے طی
Bifurcation	در شاخی تقسیم
Bigamy	روزوجیت
Bigotry	تعصیب
Bile	پت۔ صفرا
Bimodal curve	دو اکثریتی خط
Binary digit	دو گوش
Binaural	جفتی عدد
Binaural distance difference	دو گوشی فرق۔ فاصلہ
Binaural phase difference	دو گوشی فرق رخ
Binet-simon scale	بنین۔ سائنس پیمانہ
Binocular	دو چشمی
Binocular vision	دو چشمی نظر
Binomial expansion	اثناں توسعی
Biochemical disorder	حیاتی کیمیائی
Biogenic	حیاتی
Biogenesis	حیاتیت
Biogenesis, law of	قانون حیاتیت
Biographical data blank	سوالی معلومات خاکر
Biographical method	سوالی طریقہ
Bioism	مسلک حیاتیت
Biological memory	حیاتیاتی حافظہ
Biological stress	حیاتیاتی دیاؤ
Biologism	حیاتیاتی نظری
Bionomics	علم معیشت حیوانات

Biophysical	حیاتی طبیعی
Biophysical approach	حیاتی طبیعی طرز نظر
Bio-psychology	حیاتی نفیسیات
Biosocial	حیاتی سماجی
Biotism	زندگی جوہر حیات
Biotype	حیاتی ٹائپ۔ حیاتی وضع
Biovular twin	دو بیفروی توأم
Birth injury	صدر مہ پیدائش
Birth order	ترتیب پیدائش
Birth trauma	ولادت تزو ما
Bisection method	تفصیلی طریقہ
Bisexuality	دو جنسیت
Bit	محلومات اکائی
Bivariate(frequency) distribution	دو متغیرہ تقسیم
Black board	نچیرہ سیاہ
Blasphemy	عقیدہ کفر
Blessedness	سعادت
Blind analysis	بے اصول تجزیہ
Blind positioning movement	بے دیکھے تعین حرکت
Blind-spot	کورنقطہ
Blind-writing system	طریقہ تحریر نابیت
Bliss	دومانی سرست
Block scheduling	مضمون دار گروپ بندی
Block universe	سنگ آسا کائنات
Blood-brain bar	خون دماغ رکاوٹ
Blood relationship	خون رشتہ
Blue blindness	میں کوری

Blue edema	نیل وریدی استما
Blue-yellow Blindness	نیل زردگوری
Board	ا۔ تختہ ۲۔ بورڈ
Board, elementary school	مدرسہ ابتدائی بورڈ
Board, magnetic	مقناطیسی تختہ۔ مقناطیسی بورڈ
Board, school examination	بورڈ امتحان مدرسہ
Board of control	نگران بورڈ
Board of education	تعلیمی بورڈ
Board of education, central	مرکزی تعلیمی بورڈ
Board of education, district	ضلع تعلیمی بورڈ
Board of education, state	ریاستی تعلیمی بورڈ
Board of examination, state	ریاستی امتحان بورڈ
Board of higher secondary education	اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ ایئی اسکول انٹرمیڈیٹ
Board of high school and intermediate education	تعلیمی بورڈ
Boast	شیقی
Bocardo	بکارڈو
Body	ا۔ جسم ۲۔ جماعت
Body, astral	نورانی پیکر
Body, corporate	تلیم شدہ جماعت
Body configuration	جسمی پہیت نجومی
Body-image	تمثیل جسم
Body-language	زبان جسم
Body sense area	علاقہ حس جسمانی
Book, collateral	امدادی کتاب
Book, scrambled	گھڑ مذکتاب
Bond	رالیٹ

Bone conduction	استخوانی ایصال
Bonum consummatum	خیر مکمل
Boomerang effect	بازگشتی اثر (بومرانگ اثر)
Borderline (Adj)	سرحدی
Boredom	بوریت - آناتہٹ
Borstal system	بورسٹل نظام
Bounty	فیض
Bourgeois morals	بورژوا اخلاق
Boycott	پارسکاٹ - مقاطع
Brain	دماغ
Brain lesions	دماںی جراثت
Brain pathology	مراضیات دماغ
Brain pathology, organic	عقلویاتی مرضیات دماغ
Brain pathology, toxic	سمیائی مرضیات دماغ
Brain potentials(waves)	دماغی برقی لہریں
Brain stem (medulla oblongata)	حرام منفرز
Brain washing	دماغ شوئی
Bramantip	براما نتیپ
Branching	شاخساری تقسیم
Branching paths	شاخساری راہیں
Bread and butter aim	کسب معاش مقصد
Breakdown, nervous	اعصابی شکستگی
Brick layer's trade test	چنان پیشہ آزمائش
Brightness	-تابانی -۲- تیز بھی
Brightness contrast	تباہی تباہی
Brilliance	- رخشنائی -۲- زکارت
Broad field organization	وسيع الرقبه تنظيم

Broca's convolution	بروکا کی رقبہ گویائی
Bromide intoxication	برومانڈ نشہ
Bromism	برومانڈیت
Bronchiole	پھیپھڑے کی زیبی نلی
Brown-Spearman formula	براون - اسپرین مین فارمولا
Bruch's membrane	برخ صیلنی
Brutality	سنگی
Buffer items	درات ناضل
Building code	منابطہ تعمیر
Bulimia	جوع البقر
Bulletin board	اعلان بورڈ
Bundle theory of self	نظریہ مجموعہ اجرائے ذات
Bursary	۱۔ تعلیمی وظیفہ ۲۔ دفتر خازن
Business	کاروبار
Business ethics	کاروباری اخلاق

C

Cacogenics	مطالعه انحطاط نسل
Cacophony	بدآوازی
Cafeteria feeding	آزادانه انتخاب غذا
Calculus	علم الاحصاء
Calculus, propositional	قضیائی احصاء
Calibration	تغییر درجه رالات
Calligraphy	خطاطی
Calling	ا۔ پیشہ ۲۔ اشارہ غیری
Calmness	سکون
Caloriometry	حراره پیمان
Candidate	امیدوار
Cannibalism	آدم خوری
Canon	اصول مسلمہ
Capacity	صلاحیت
Capacity, mental	ذہنی صلاحیت
Capitalism	سرمایہ داری
Capitalistic system	سرمایہ دارانہ نظام
Capital punishment	سزاۓ مرت
Capricious	من تجویی

Capsule statement	ایکجازی بیان
Cardinal principle	بنیادی اصول
Cardall primary business interest test	کارڈل بنیادی کاروباری شوق جائز
Cardiac muscle	عضله قلب
Cardiazol	کارڈیازول
Cardinal disposition	بنیادی میلان
Cardinal sin	گناہ کبیرہ
Cardinal virtue	بنیادی نیگی
Cardiotachometer	حرکت قلب پیما
Care, institutional	اداری ریکھ بھال
Career, educational	رفتاہ تعلیم
Career book	بیاضی پیشہ
Career conference	پیشہ کانفرنس
Career days	ایامِ پیشہ
Career master	رہنمائے پیشہ
Carnal sin	شہوانی گناہ
Carnegie unit	کارنیجی یونٹ
Cartesianism	کارتیزیت (فلسفہ ریکارٹ)
Cartography	نقشه کشی
Case book	معاملہ نامہ
Case history (method)	احوالِ معاملہ (طریقہ)
Case study	مطالعہ معاملہ
Cashability (of concepts)	منفعت پذیری (تصورات)
Cash value	منفعتی قدر
Casual	اتفاقی
Casualism	اتفاقیت
Casuist	- اخلاقی مجتهد ۲- حیله تراش

Casuistry	۱- اخلاقی اجتہاد
Catabolism	۲- حیلہ تراشی
Catalepsy	تجھیب خلیات
Catatonia	اعصانی اگردن
Catechetical metod	کیٹا نوینا
Catechism	جواب رٹائی طریقہ
Categorical	سوال و جواب (زمدہی تعلیم میں)
Categorical imperative	۱- قطعی ۲- غیرمشروط
Categories, dynamical	امر غیر مشروط
Categories, mathematical	حرکتی اقسام
Category	ریاضیات اقسام
Category-system method	۱- قسم ۲- مقولہ
Catharsis	نظام اقسام
Catholicism	۱- سینکلیتوک نہیں ۲- دسیح المشرقی
Causal connection	علیٰ تعلق
Causalgia	سورشی اعصاب
Causality	علیت
Causality, Phenomenal	منہبی علیت
Causal theory	نظریہ عللت و معلوم
Causa sui	عللت بالذات
Causation	تعلیل
Causation, imminent	تعلیل ساری
Causation, mnemic	حافظہ تعلیل
Causation, transeunt	تعلیل ماورائی
Cause	۱- عللت - ۲- سبب
Cause, complex	عللت مرکب
Cause, constituents of	اجزائی علت

Cause, efficient	علت فاعلی
Cause, exemplary	علت مثالی
Cause final	علت نهائی
Cause, formal	علت صوری
Cause, generalised	علت عمومی
Cause, material	علت مادی
Cause, mechanical	مکانیکی علت
Cause, popular	علت بحروف
Cause, precipitating	تعیینی سبب
Cause, predisposing	میلانی سبب
Cause, preventing	علت مانع
Cause, proximate	علت قریب
Cause, remote	علت بعدی
Cause, scientific	۱- علت علمی ۲- سائنسی علت
Cause and effect, mutuality of	باهمیت علت و معلول
Causes, composition of	تركيب علل
Causes, conjunction of	الاتصال علل
Causes, plurality of	تعدد علل
Celibacy	بخود
Cells, hair	خلیات مو
Censor	۱- محاسب ۲- احتساب
Censorship	احتساب
Censure	ملامت
Census	مردم شماری
Centrifugal swing	مرکز گردی جهونگ
Cephalgia	دندان سر
Cephalic index	اشاریه سر

Cephalocaudal direction	سردم سمت
Cephalocaudal gradient	سردم دھلان
Cerea flexibility	موئی حالت
Cerebellum	منزک
Cerebral arteriosclerosis	مغزی شریان صلابت
Cerebral concussion	مغزی صدمہ
Cerebral contusion	مغزی چوٹ
Cerebral cortex	تشر
Cerebral dominance	مغزی لفوق
Cerebral dysrhythmia	مغزی خلل توازن
Cerebral embolism	مغزی انجامد خون
Cerebral foodstuff	مغزی غذا
Cerebral hemisphere	مغزی نصف کرۂ
Cerebralism	رمائیت (شعور سے متعلق)
Cerebral localization	مغزی تعین مقام
Cerebral thrombosis	مغزی فائع
Cerebralvascular accident	مغزی سڑکی مادہ
Cerebrospinal (system)	رمائی، اریڈھ نظام
Cerebrotonia	ذہنی غلبہ
Cerebrum	مغز
Ceremonial function	رسمی تقریب
Ceremonialism	رسمیت
Ceremony	رسم
Certainty, logical	منطقی تیقّن
Certainty, psychological	نفیاں تیقّن
Certificate	۱۔ صداقت نامہ - ۲۔ سرثیفکٹ
Certificate, age	۱۔ صلات نامہ عمر - ۲۔ عمر سرثیفکٹ

Certificate, birth	پیدائش سُرٹیفکٹ
Certificate, character	چال چلن سُرٹیفکٹ
Certificate, elementary	ابتدائی صداقت نامہ۔ ابتدائی سُرٹیفکٹ
Certificate, first aid	نوری امداد صداقت نامہ
Certificate, kindergarten	کنڈر گارڈن سُرٹیفکٹ
Certificate, teaching	صداقت نامہ معلمانی
Certificate, overage	صداقت نامہ زائد عمری
Certificate, special	خصوصی صداقت نامہ
Certificate, supervisory	صداقت نامہ نگرانی
Certificate, teacher's	صداقت نامہ معلم
Certificate, underage	صداقت نامہ کم عمری
Certificating office	دفتر تصدیق
Certification	تصدیق
Certification by subject	مضبوون وار تصدیق
Certifying officer	افسر تصدیق
Certitude	یقین
Cervical nerve	عنق عصب
Chain Reflex	سلسلہ فعل اضطراری
Chair	اپروفیسری ۲۔ منصب
Chalk board	چاک برد
Chance	ا۔ اتفاق ۲۔ موقع
Chance, calculation of	حساب اتفاقات
Chance, elimination of	اخراج اتفاقات
Chance, law of	قانون اتفاقات
Chance, variation	ا۔ اتفاقی تبدیلی ۲۔ اتفاقی تغیر
Chancellor	امیر جامسٹ - چانسلر
Changelessness	غیر تغیر پذیری

Chantry school	چینٹری اسکول
Chaos	- فساد ۲۔ انتشار
Character	سیرت
Character neurosis	اخلاں سیرت
Character sketch	خاکہ، سیرت
Characteristic, class defining	صفی امتیازی خصوصیت
Characteristic	خصوصیت
Characterisation	- تعین سیرت ۳۔ تعین و صفت ۴۔ کردار نگاری
Charity	- نیزرات ۲۔ احسان
Chart	- چارت ۲۔ خاک
Chart, career	پیشہ نامہ
Chart, classification	نقشه اصناف بندی
Chart, profile	نیم رخی خاک
Chart, progress	ترنی چارت
Chart, progress distribution	رنبار ترقی چارت (رتمدار طلبہ)
Chart book	چارت کاپی
Chastity	- عصمت ۲۔ عفت
Check list	نشان اندازی فہرست
Check list, adjective	اوصاد نشان اندازی فہرست
Check list, diagnostic	تشخیصی نشان اندازی فہرست
Check list, teacher evaluation	قدرت استاد نشان اندازی فہرست
Chemistry, mental	کیمیائی ذہن
Chemogenic factor	کیمیا ای اعمال
Chemotaxis	کیمیائی حرکت دیکیانی پیغ کے زیر اثر حرکت عضویہ
Chemo-therapy	کیمیائی طریقہ علاج
Child, antisocial	سماج مخالف پہنچ
Child, asocial	نامملساں پہنچ

Child, atypical	خلافات ٹائپ بچہ
Child, delinquent	بدرہ اہ بچہ
Child, dependent	سہارا طلب بچہ
Child, deviate(deviant)	مغروت بچہ
Child, dull	غبی بچہ
Child, exceptional	استثنائی بچہ
Child, feeble-minded	ضعیف العقل بچہ
Child, gifted	نطیں بچہ
Child, handicapped	معذور بچہ
Child, imaginative	ذی تھیل بچہ
Child, maladjusted	سلابقت ناپذیر بچہ
Child, mentally retarded	پسمندہ ذہن بچہ
Child, neglected	ناپر سس بچہ
Child, nervous	حصانی بچہ
Child, normal	نارمل بچہ
Child, overgrown	زامک بالیدہ بچہ
Child, overinhibited	زانک افہار بستہ بچہ
Child, over-protected	نامہ حفاظ زدہ بچہ
Child, physically retarded	پسمندہ جسم بچہ
Child, precocious	پیش ارس بچہ
Child, preschool	قبل مدرسہ عمر بچہ
Child, problem	مسئل خیز بچہ
Child, rejected	مسترد بچہ
Child, retarded	پسمندہ بچہ
Child, superior	برتر بچہ
Child, truant	مکتب غریز بچہ
Child, talented	باصلاحیت بچہ

Child, typical	۱- مثالی بچہ
Child, withdrawn	۲- غمیب بچہ
Child guidance	علاحدگی پسند بچہ
Child study	رسانخانی اطفال
Chivalry	مطالعہ اطفال
Choice	فتوت - فداکاری
Choice-behaviour	۱- پسند ۲- اختاب
Choice point	اختاب کمردار
Choice reaction	اختاب نکتہ
Choice situation	اختاب روڑ عل
Choleric	اختاب موقع
Cholinesterase	صفراوی
Choral reading	کولینیستریز
Chorea	باہم خوش خوانی
Christophany	ام آں بصیران
Chromatic vision.	ظہور سچ
Chromosome	رنگ بھارت
Chronic	لوئیہ
Chronocyclegraph	زمن
Chronograph	دوروخت نگار
Chronometry	وقت نگار
Chronos	وقت پیمان
Chronoscope	زمان
Cilia	وقتہ پیا
Ciliary	ریشہ (غلیظہ چشم)
Ciliary muscle	ریشان (غلیظہ چشم)
Circuit teacher	ریشان عضله
	گشتی استاد

<u>Circumstances</u>	حالات
<u>Circumstances, accompanying</u>	نفسی حالات
<u>Circumstances, essential</u>	لازمی حالات
<u>Circumstances, relevant</u>	متعلقہ حالات
<u>Citation</u>	۱۔ تعارف نامہ۔ نقل قول ۲۔ استشهاد
<u>Civil disobedience</u>	سرول نازمانی
<u>Civil philosophy</u>	مدنی فلسفہ
<u>Civil rights</u>	شہری حقوق
<u>Claim</u>	دعاوی
<u>Class</u>	۱۔ درجہ ۲۔ مرتبہ طبقہ ۳۔ جماعت ۴۔ صفت
<u>Class, adjustment</u>	مطابقی درجہ
<u>Class, all-comprehensive</u>	کہہ گیر صفت
<u>Class, auxiliary</u>	ذیلی صفت
<u>Class, closed</u>	بند طبقہ
<u>Class, coaching</u>	امدادی تعلیم جماعت
<u>Class, complementary (or complement)</u>	تکمیلی تعلیم جماعت
<u>Class, corrective</u>	اصلاحی جماعت
<u>Class, demonstration</u>	محورہ سبق جماعت
<u>Class, disciplinary</u>	تادیبی جماعت
<u>Class, evening</u>	درسی شام
<u>Class, extra</u>	نادر درس
<u>Class, extramural</u>	بیرونی مدرسہ درس
<u>Class, health adjustment</u>	درستی سخت گھنٹہ
<u>Class, library training</u>	لامپری تربیت جماعت
<u>Class, makeup</u>	تلائی گھنٹہ
<u>Class, null</u>	صفت موہوم
<u>Class, normal training</u>	نارمل فرینٹ کلاس

Class, observation	شایداتی گھنٹہ
Class, open	کھلا طبیہ
Class, open air	کھلی ہوا جماعت
Class, preparatory	تیاری جماعت
Class, preprimary	قبل ابتدائی جماعت
Class, seminar	سینیار گھنٹہ
Class, sight conservation	تحفظ بصارت گھنٹہ
Class, special	درجہ خاص
Class, tutorial	ٹپر نوڑیں گھنٹہ
Class, ungraded	غیر معین درجہ
Class calculus	احصائی اصناف
Class concept	تصور صفت
Class consciousness	طباقائی شعور
Class description	بیان صفت
Class diary	کلاس ڈاری
Class-fellow	ہم جماعت
Classical paranoia	روایتی وہم منظم
Class inclusion	شمول در صفت
Class interest	طباقائی مفار
Class interval	شماریاتی وقفہ
Class management	انتظام جماعت
Class mate	اہم سبقت - ۲ - ہم جماعت
Class room	ہم جماعت
Class room, socialized	سماجیا یا گھرہ جماعت
Class society	طباقائی سماج
Class struggle	طباقائی کشمکش
Classes, collectively exhaustive	اجتمائی کامل اصناف

Classes, mutually exclusive	بایم مالع اصناف
Classification	اصناف بندی
Classification, affiliated	المحاذی اصناف بندی
Classification, artificial	مصنوعی اصناف بندی
Classification, deductive	استخراجی اصناف بندی
Classification, general	عام اصناف بندی
Classification, inductive	استقرائی اصناف بندی
Classification, natural	تدریقی اصناف بندی
Classification, Scientific	سائنسی اصناف بندی
Classification by definition	اصناف بندی با تعریف
Classification by leap	بلاسلسله اصناف بندی
Classification by series	باسلسله اصناف بندی
Classification by type	اصناف بندی با نوع
Classless society	غیرطبقانی سماج
Claustrophobia	بند مکانی خوف
Clay modelling	گل کاری
Cleanliness	صفانی
Clemency	ترجم
Client-centred counselling	معمول مرکز ملاج کاری
Client-Centred psycho-therapy	معمول مرکز علاج نفسی
Clinical	کلینیک
Clique	جستجویان گروه
Clique change	گروه بدی
Clonic stage	تشنجی مرحله
Clonus	تشنج
Closed loop	بند طلق
Closed minded	بند ذهن

Closed society	بندسماج
Close technique	اختشامی تکنیک
Closure	تکلی
Closure, law of	قانونِ تکلیم رگ ٹالٹ نفیات)
Closure phenomenon	تکلیمہ مظہر
Clue	سراءع
Coaching	امدادی تدریس
Coadaptation	مطابقت پاہم
Cocaine addiction	کوکین لٹ
Cochlea	کن آھو یعنکا
Coconscious	ہم شعور
Code classification	اشارتی اصناف بندی
Coding	اشارہ سازی
Coefficient of alienation	شرح بیکاری
Coefficient of correlation	شرح ربط
Coefficient of equivalence	شرح تساوی
Coercion	استبداد
Coexistence	ہم وجودیت
Cogitation	غور تفکر
Cogito ergo sum	ایشتیت وجود بر بنائے فکر
Cognate species	ہم اصل انواع
Cognition	وقوت
Cognition, discursive	استدلالی وقوت
Cognition, intersubjective	بین موضوعی وقوت
Cognitive	وقوفی
Cognitivist theory	وقوفیست رقدیر اخلاق)
Cognoscendum	وقوفی

Coherence	ربط معنوي
Coherence, systematic	بانطباط پيوري
Coherence theory of truth	ربط معنوي نظرية صداقت
Coherence theory of good	ربط معنوي نظرية خير
Cohesion	پيوستگي
Cohesion, principle of	اصول پيوستگي
Coincidence	- انبساط - ۲. هم زمانیت
Coincidence, casual	- اتفاق اتفاقاً - ۲. اتفاق هم زمانیت
Coincidence, causal	انطباق بالعلت
Coincidence, chance	حادثاتي انطباق
Coincident	- مطابق - ۲. هم زمان
Coinherence	هم زووميت
Cold spot	سرد نقطه
Collateral	- ذلي - ۲. هم جد
Collective good	اجتماعي ظلاح
Collective mind	اجتماعي ذهن
Collective use	اجتماعي استعمال
Collectivism	اجتماعيت
College	كلج
College, training	ترنينج كلج
Colliculi, inferior	حرام مغز زيرين ابهار
Colliculi, superior	حرام مغز بالاني ابهار
Colliculus	حرام مغز
Colligation of facts	ترتيب واقعات
Collocation	ترتيب الفاظ
Colour	رنگ
Colour, aperture	رنگ روزن

Colour, complementary	مکمل رنگ
Colour, induced	ساختہ رنگ
Colour, zones of	رنگ کے مناطق
Colour-blindness	رنگ کو روی
Colour-blindness, partial	جزری رنگ کروی
Colour circle	حلقہ رنگ
Colour constancy	استقلال رنگ
Colour contrast	تقابیل رنگ
Colour contrast, simul taneous	ہم وقت تقابیل رنگ
Colour contrast, successive	متوالی تقابیل رنگ
Colour defect, anomalous	بے آہنگ نقشی رنگ
Colour-forms sorting test	امتیاز رنگ شکل آزمائش
Colour matching	مسیل
Colour mixing	رنگ آمیزش - رنگ آمیزی
Colour mixture, additive	پیش رنگ آمیزہ
Colour mixture, binocular	دو چشمی رنگ آمیزہ
Colour mixture, Newton's law of	نیوٹن رنگ آمیزی قانون
Colour pyramid	اہرام رنگ
Colour shade	درجہ رنگ
Colour solid	رنگ مکعب
Colour tint	بلکارنگ
Colour triangle	رنگ تکون - رنگ مثلث
Colourvision theory	نظریہ ادراک رنگ
Colour wheel	رنگ چکر
Coloured hearing	رنگ آمیز سمعت
Coloured shadow	رنگین سایہ
Colours, Munsell	منسل رنگ

Colours, Ostwald	اوست والڈرنگ
Column diagram	ستونی خاکہ
Coma	سکتہ
Combat fatigue	(مرليفانہ) جنگ تکن
Combination tones	مجموعی سر
Comfort zone	راحت منطقہ
Command	حکم
Commandment	امر ربی ()
Commission, error of	خطائے ارتکابی
Commissure, grey	خاکستری اعلانی ریٹک
Commissure, white	سفید اعلانی ریٹک
Commitment	پیمان دا بستگی
Common sense	نہم عامہ
Commonsense morality	اخلاقیات نہم عامہ
Commonsense philosophy	فلسفہ نہم عامہ
Communicatio- idiomatum	نظریہ ہم اثری صفاتِ ربانی و انسانی (رسیع)
Communication	- ترسیل ۲ - ابلاغ
Communication, formal	باضابطہ ترسیل
Communication, informal	بے ضابطہ ترسیل
Communication channel	راہ ترسیل
Communication code	trsیل کوڑ
Communicative ability	trsیلی قابلیت
Communion	وصل
Communion with God	وصل الہی
Community	۱۔ اشتراک ۲۔ برادری ۳۔ فرقہ ۴۔ کیونٹی
Community centre	کیونٹی مرکز
Community project	اجتماعی پروجیکٹ

Commutative justice	نیازمندی عدل
Commutative law	نیازمندی قانون
Compassion	درودمندی
Compatibility	موافق
Compensation	تلانی
Compensation, vicarious	نیایتی تلانی
Compensatory	بطور تلانی
Compensatory traits	ارصاد تلانی
Competency pattern	وضع اپلیت
Competition	مقابلہ
Complementarity, doctrine of	نظریہ تنکیلیت
Complete good	خیر کامل
complex	۱- پیچیدہ ۲- گرہ ۳- اجمن (نفسیات)
Complex, castration	گرہ آنکشنگ
Complex, electra	السیکٹرا گرہ
Complex, empathic	سم احساسی گرہ
Complex, father	گرہ پیری
Complex, infantile	گرہ طفیل
Complex, inferiority	احساس کمتری - گرہ کمتری
Complex, jehovah	جیہووا گرہ
Complex, oedipus	اویپس گرہ
Complex, mother	گرہ مادری
Complex Coordination test	پیچیدہ تنقیق آزمائش
Complex fact	امروز پیچیدہ
Complex indicator	گرہ نہ
Component	جزء
Component instincts	ذیلی جبلیتیں

Composite	مخلوط
Composite growth curve	خط مخلوط بالسیدگی
Composition	ا- بنادر ۲- تشكیل ۳- انشا
Composition, free	آزاد انشا
Compossible compound	هم امکان - مرکب
Comprehension	فوت فهم
Comprehensive examination	جامع امتحان
Comprehensive view	جامع تصریر
Compresence	هم موجودگی
Compromise	ا- سمجھوتہ ۲- مقابہت
Compromise formation	مصالحتی تشكیل
Compulsion	جبر
Compulsion neurosis	اختلال جبر
Compulsive	اجباری
Compulsive personality	اجباری شخصیت
Compunction	پیشمانی - ندامت
Compunction of conscience	ملامتِ ضمیر
Computer	ا- کپیوٹر ۲- حساب کنندہ
Conation	جهد
Conative	جهدی
Conative theory	نظریہ جهد
Con-attitude	مخالف ترویہ
Conatus	تحریک تحفظ نهاد
Concatenation	سلسلہ بندی
Conceit	خود بینی
Concentration	ارتکاز
Concentration, field of	سیدان ارتکاز

Concept	تصویر
Concept, abstract	مجرد تصویر
Concept, concrete	مفرد تصویر
Concept, conjunctive	اتفاقی تصویر
Concept, disjunctive	انفعایی تصویر
Concept, moral	اخلاقی تصویر
Concept, relational	نسبتی تصویر
Conception	۱- تعقیل ۲- استقرار حمل
Conceptual	تصوراتی
Conceptualisation	تصویرگری
Conceptualism	نظریہ تصویرات
Concha	جوف گوش
Conclusion	۱- خاتمه ۲- نتیجہ
Conclusive proof	قطعی ثبوت
Concomitance	ہم دوقومی
Concomitant variation	ہم رکوع تبدیلی
Concrescence	ہم ہمونی
Concrete	۱- مفرد ۲- معین
Concrete duty	معین فرض
Concretum	مفرد شے
Concupiscence	شہرت
Concurrence	۱- تائید ربانی ۲- اتفاق رخیال (عل)
Concussion	۱- صدمہ ۲- ضرب
Condensation	تکثیف
Condignity	شایانیت
Condition	۱- حالت ۲- شرط
Condition, casual	شرط اتفاقی

Condition, causal	شرط مللي
Condition, constitutive	اساسي شرط
Condition, epistemic	علمی شرط
Condition, negative	ا۔ منفی حالت ۲۔ منفی شرط
Condition, objective	ا۔ معروفی شرط ۲۔ معروضی حالت
Condition, positive	ب۔ مثبت حالت ۲۔ مثبت شرط
Condition, single	واحد شرط
Conditional	مشروط
Conditional morality	مشروط اخلاق
Conditioned reaction, deficient	نافضل التزامی ردة عمل
Conditioned reaction, surplus	فاضل التزامی ردة عمل
Conditioned response, trace	التزامی جواب نقش
Conditioning	التزام
Conditioning, backward	پس رو اتزام
Conditioning, classical	کلاسیک اتزام
Conditioning, cross	باہمی اتزام
Conditioning, delayed	تاخیری اتزام
Conditioning, higher - order	ما بعد اتزام
Conditioning, instrumental	دستیئی اتزام
Conditioning, operant	فعانی اتزام
Conditioning, respondent	جوابی عمل اتزام
Conditioning, selective	اختیاری اتزام
Conditions, aggregate of	مجموعہ شرائط
Conduct	ا۔ حال چلن ۲۔ کردار داعلaciات ()
Conduct disorder	فساد کردار داعلaciات ()
Conduction	الیصال
Conduction, saltatory	جستی الیصال

Conduction deafness	ایصالی گردنگوشتی
Conductivity	ایصالیت
Conduct-pattern	وضع کردار
Cone	مخروط
Confabulation	تلبیس حافظ
Confession	اعترافات
Confidence	اعتماد
Confidence, levels of	مدارج اعتماد
Confidence, limits of	حدود اعتماد
Configuration	تشکل
Configuration reversible	دورخواه تشکل
Confirmable	توثیق پذیر
Confirmation	۱- توثیق ۲- مستقل
Conflict	کشش
Conflict, approach- approach	رغبت رغبت کشش
Conflict, approach- avoidance	رغبت احتراز کشش
Conflict, avoidance- avoidance	احتراز احتراز کشش
Conflict-cooperation continuum	کشش تعاون سلسه
Conflict, mental	ذہنی کشش
Conflict, role	منصب کشش
Conflict of duties	کشش فرائض
Conformance	تلقید
Conformist	مقلد
Conformity	تعمیر
Conformity-proneness	سیلان تلقید
Confusing the issue	خلط بحث
Confutation	تردید

Congenital	خلقی
Congenital character	خلقی خاصہ
Congenital difference	خلقی فرق
Congenital syphilis	پیدائشی آنٹک
Conglomeration	اجماع
Congruity	مجانست
Congruous	مجانس
Conjecture	تحمیل
Conjunct	معطوف
Conjunction (Logic)	عطف
Conjunctiva	پرده، ملتحمہ
Conjunctive	عطفی
Connate	ہم خلت
Connecting principle	اصول رابطہ
Connectionism	رباطیت
Connective	رابط
Connective, truth functional	صراحت و تلفی رابط
Connector	رابطہ ساز
Connexity	ا۔ علاقہ ۲۔ علاقیت (منطق)
Connotation	مفہوم
Connotation, conventional	رسمی مفہوم
Connotation, objective	معروضی مفہوم
Connotation, subjective	بینظوری مفہوم
Connotative	مفہومی
Connotative (or attributive) view	مفہومی نقطہ نظر
Conscience	فہری
Conscientious	فرم شناس

Conscientiousness	قرضی شناسی
Consciousness	شعور
Consciousness, dimensions of	ابعاد شعور
Consciousness, field of	ساحت شعور
Consciousness, fringe of	حاشیه شعور
Consciousness, general	عام شعور
Consciousness, secondary	ضمی شعور
Consciousness, social	سماجی شعور
Consciousness, stream of	سیل شعور
Consciousness in general	شعور عمومی
Consensual validation	اجماعی توثیق
Consensus	اجماع
Consensus genittum	اجماع عام
Consequence	نتیجه
Consequence theory	نظریہ مکانات
Consequent	متبع - مخرج
Conservation theory	نظریہ بقاء مادہ یا اتنانی
Conservatism	قدامت پسندی
Conservative	قدامت پسند
Consistency	توافق
Consolidated school	ضم کردہ مدرسہ
Consolidation of schools	ضم مدارس
Consolidation theory(of memory)	نظریہ استحکام (حافظہ)
Consonance	هم صوتی - ہم آہنگ
Constancy	شات
Constancy phenomenon	مفہم استقلال
Constant	مستقل

Constant, cosmic	کائناتی مستقل
Constant error	خطاۓ مستقل
Constant stimulus	مستقل پریغ
Constant stimulus difference, method of	طریقہ فرقہ مستقل پریغ
Constant stimulus method	طریقہ مستقل پریغ
Constellation	مجموعہ
Constituent	
Constitution	اساختہ اور دستور
Constitutional type	جسمانی ٹاپ
Constitutive	اسائی۔ ترکیبی
Constraint	۱۔ رکاوٹ ۲۔ درباڑ
Construct, imaginative	تخیلی تصوّرہ
Construct, logical	منطقی تصوّرہ
Construct, psychological	نفسیاتی تصوّرہ
Constructionism, logical	منطقی نظریہ تصوّرہ
Constructive	تعییری
Constructive supervision	تعییری نگرانی
Consultancy	مشورت
Consultant	مشیر ماہر
Consultant, educational	تعلیمی مشیر ماہر
Consultative management	مشورتی انتظامیہ
Consumer jury	صارفین جوری
Consumer panel	صارفین چینسل
Consumer testing group	صارفین جامع گروپ
Consummation	اکتمال
Contagion	تعدیہ
Contemplation	تأمل یقین

Contempt	حقارت - توهین
Content	مواد
Content, factual	واقعی مواد
Content, ideal	تجزیل مواد
Content, law of	قانون مشمول
Content analysis	تجزیه مواد - تجزیه مشمولات
Content subject	مضمون مواد
Content validity	صحیت مواد
Contentment	قناعت
Context, law of	قانون سیاق
Contextualism	نظریہ سیاقتیت
Contextual method	سیاقی طریقہ
Contiguity	اتصال
Contiguity, law of	قانون مکارنہ
Contiguity, temporal	زمانی اتصال
Continence	ضبط نفس
Contingency	اتفاقیت - عدم لزوم
Contingency, physical	طبعی اتفاقیت
Contingent	غیریابی - غیر لازم - اتفاقی
Continuation services	بعد تعلیم سرویس
Continuity	شامل
Continuous promotion	مسلسل ترقی (مدارس)
Continuous reinforcement	مسلسل تقویت
Continuous series	متصل مسلسل
Continuum, latent	محض مسلسل
Continuum, sensory	حسی مسلسل
Contra-conative	مخالفت جہد

Contract	اقرارنامه - معابده
Contract clauses	وفعات اقرارنامه
Contraction	سکڑن
Contraction, isometric	هم مقدار سکڑن
Contraction, isotonic	هم قوت سکڑن
Contraction, tetanic	گروازی سکڑن
Contractualism	تعهدیت
Contract theory	نظریه معابرہ
Contradiction	تضاد - تناقض
Contraposition	نقیض
Contrapositive	مُناقض
Contrapositive, obverted	مُناقض محدود
Contrariety	تضادیت
Contrary	ضد
Contrast	تماالت
Contra-suggestibility	معکوس ایما پذیری
Contra-suggestive	معکوس ایمانی
Contra-volitional	مخالف ارادہ
Contrition	ندامت
Control	کنٹرول
Control, authoritarian	آمرانہ کنٹرول
Control, democratic	جمهوری کنٹرول
Control, thought	پابندی فکر
Control group	کنٹرول گروپ
Control object	کنٹرول معمول
Control response	کنٹرول جواب
Controversy	نزاع

Convalescence	دور صحبت یابی
Convent	کانوئینٹ
Convention	رسم
Conventionalism	رسم پرستی
Convergence	انعطافات
Convergence theory	نظریہ انعطافات
Converse	معکوس - عکس
Converse, obverted	عکس معورول
Conversion	تکلیس
Conversion by limitation	تکلیس مشروط
Conversion by negation	تکلیس نفی
Conversion by accidens	تکلیس بحدود
Conversion hysteria	تحویلی هیستریا
Conversion reaction (hysteria)	تحویلی رد عمل (هیستریا)
Convertend	مرضیق تکلیس
Conviction	ایقان
Convolution	پل (منفر)
Convulsion	ششخ
Convulsion, epileptic	مرگی ششخ
Convulsion seizure	تشنجی دوره
Convulsion seizure, focal	مرکوز تشنجی دوره
Convulsion seizure, general	عام تشنجی دوره
Co-operative diversified education	تحادی متعدد تعلیم
Co-ordinate	تسیق
Co-ordinate relationship	تسیقی تعلق
Coordinating centre	مرکز تنسیق
Co-ordinator	ناظم

Coping behaviour	عہدہ بر آگردار
Coprophilia	فہلم پسندی
Copula	جوڑ دہلیوں کا رابطہ۔ منطق
Copy theory	نظریہ نقل
Cord, spinal	حرام مغز
Cornea	قرینہ
Corneal reflection	قرینائی عکس
Corollary	ضمنی نتیجہ
Corpuscle	جسمیہ
Corpuscular theory	نظریہ جسمیہ
Core area	مرکزی دائرہ
Core curriculum	مرکزی نصاب تعلیم
Core programme	مرکزی پروگرام
Cornell index	کارنل اشاریہ
Corpus striatum	ریشہ تمچا دماغ کے پنکھے حصے میں)
Corpus callosum	ریشہ جال رمابین نیم کرہ ہائے دماغ
Correction	تصحیح۔ تاویب
Correctional school	تادیبی مدرسہ
Correctional class	اسلامی درجہ
Corrective justice	تادیبی انفصال
Correlation	ربط
Correlation, biserial	دوسلدہ ربط
Correlation, inter-class	درون درجہ ربط
Correlation, partial	جزدی ربط
Correlation, product moment	حاصل قدر ربط
Correlation, rank difference	فرق مارج ربط
Correlation, tetrachoric	چھت اصناف ربط

Correlational studies	رباعی مطالعہ
Correlation, negative	منفی ربط
Correlation, positive	مثبت ربط
Correlation, ratio	نسبت ربط
Correlation, sensory	حسی ربط
Correlation, spurious	مسنونی ربط
Correlation of energy, theory of	نظریہ ربط توانی
Correlative(n)	ستلازم
Correlation multiple	مرکب ربط
Correspondence	مطابقت
Correspondence course	مراحلی کورس
Correspondence, one one	فرد بے فرد مطابقت
Correspondence, point to point	حرف بے حرفاً مطابقت
Corresponding point	نظیری نکتہ
Corti, arches of	کورتی محرابیں
Corti, organ of	کورتی عصنو
Corti, pillars of	کورتی ستون
Cortical blindness	قشر کوری
Cortical steroids	قشر چربی محل
Cortical suppression	قشر اجبار
Cortical suppressor area	قشر اجباری رقبہ
Corticofugal fibres	قشر رود ریشے
Corticopetal fibres	قشر گزیریشے
Cortin	کورتین
Cosmocentric view	کائنات مرکز نقطہ نظر
Cosmogony	لکوئینیات
Cosmology	علم کائنات (دکونیات)

Cosmos	کون - کائنات
Cosmotheism	کون الوہیت
Co-twin control, method of	دو توأم کنٹرول طریقہ
Counselee	صلاح یاب
Counselling	صلاح
Counselling, client centred	طالب مرکز صلاح کاری
Counselling, directive	مقصودی صلاح کاری
Counselling, eclectic	انتحابی صلاح کاری
Counselling, group	گروپ صلاح کاری
Counselling, individual	افرادی صلاح کاری
Counselling, multiple	کثیر جہت صلاح کاری
Counselling, non-directive	غیر مقصودی صلاح کاری
Counselling, personality	شخصیت صلاح کاری
Counselling, prescriptive	تجزیی صلاح کاری
Counselling psychologist	صلاح کار ماہر نفیسیات
Counselling, therapeutic	علیجی صلاح کاری
Counselling psychology	صلاح کاری نفیسیات
Counselling service	صلاح کاری سروس
Counselling treatment	صلاح کار رانہ علاج
Counsellor	صلاح کار
Counsellor, coordinator	نائب صلاح کار
Counsellor, personal	شخصی صلاح کار
Counsellor, student	صلاح کار طلبہ
Counsellor, teacher	معلم صلاح کار
Counsellor-Centred counselling	صلاح کار مرکز صلاح کاری
Counter-argument	جوابی دلیل
Counter-motivation	بر عکس تحریک (ذہنی)

Counter-dilemma	چهابی ذوجہتیں
Counter suggestion	بر عکس ایما
Counter-transference	بر عکس انتقال جذبہ
Counter-value	ضد قدر
Courage	جرات
Course, academic	تعلیمی نصاب
Course, advanced	اعلیٰ نصاب
Course, basic	بینیادی نصاب
Course, complementary	تمکیمی نصاب
Course content	مشمولاتِ نصاب
Course, core	مرکزی نصاب
Course, elementary	ابتدائی نصاب
Course, exploratory	آگنیشی نصاب
Course, extension	توسیعی نصاب
Course, formal	با ضابطہ نصاب
Course, freshman	نوجاوند نصاب (کالج ولیونیرسٹی)
Course, general	عام نصاب
Course, group guidance	اجتماعی رہنمائی نصاب
Course, honours	آنر نصاب
Course, integrated	مربوط نصاب
Course, intensive (Rapid mastery in shorter period)	مرتکز نصاب
Course, introductory	تمہیدی نصاب
Course, laboratory	تجربیاتی نصاب
Course, problems	سائل مرکز نصاب
Course paper (term paper)	سیقانی تقویض
Covariance	بانم

Covenant	پیشاق
Covert	پنهان
Covetousness	طبع
Crainoscopy	کاسه سرمهی
Cramming	رُوانی
Cranio-sacral system	سر مقعد نظام
Creationism	نظریه تخلیق
Creative supervision	تحقیقی نگرانی
Criteriology	عياریات
Criterion, rational	عقلی عیار
Criterion, social	سماجی عیار
Criterion, contamination	خلط عیار
Criterion tolerance	تحمل عیار
Critical flicker-frequency (CFF)	حد ادراگ رزش
Critical incident technique	نازک مرحله تکنیک
Critical period	نازک دور
Critical point	فاصل نکته
Cross-Communication	روط فرهنگی توصیل
Cross-Cultural testing	بین هنری آزمایش
Crucifixion	تسلیب
Cue-producing response	اشاره آفرینی جواب
Cue-reversal technique	تغییب اشاره تکنیک
Cultural relativity	هنری اضافیت
Culture, explicit	ظاهر تهذیب
Culture, implicit	غمض تهذیب
Culture-bound test	تهذیب بند آزمایش
Culture-free test	تهذیب آزاد آزمایش

Curriculum, broad fields	و سیع رقة نصاب تعلم
Curriculum, community centred	کیونٹی مرکز نصاب تعلم
Curriculum, constant	ستقل نصاب تعلم
Curriculum, correlated	مربط نصاب تعلم
Curriculum, elective	اختیاری نصاب تعلم
Curriculum, problem centred	مسئلہ مرکز نصاب تعلم
Curvilinear regression	انحنائی رجعت
Curvilinear relationship	انحنائی تعلق
Cushing's syndrome	کشینگ مجموعہ علامات
Cut-off score	حدیدی شمار
Cybernetics	سامبھر نیتک
Cyclograph	دوری گران
Cycloid	مرو جزر شخصیت
Cyclothemia	جنون جوش اضطرال
Cyclothymic temperament	مرو جزری مزاج
Cyrenaicism	سامبھر نیتیت

D

Dactylogy	دستی اشاره ترسیل
Dalton plan	ڈالٹن منصوبہ
Darapti	داراپتی
Darii	داری یگی
Darwinism	ڈاروینیت
Data	معطیات
Datisi	دراتیسی
Datum	معطیہ
Datum, private	شخصی معطیہ
Datum, public	عمومی معطیہ
Datum, Somatic	جسمانی معطیہ
Day dream	خواب پیداواری
Day Scholar	غیر مقیم طالب علم
Deaf-mute	گونگا - بہرا
Dean	ڈین
De-anthropomorphism	ازالہ تشییہ
Debate	مباحثہ
Decalogue	احکام عشرہ (موسی)
Decerebration	قطع نخاع
Decerebration rigidity	قطع نخاع اگردن

Decibel (db)	عشریلی رپیانه آواز اکافن
Decisive proof	دلیل قیصل
Deconditioning	ازاله التزام
Decorum	پابندی آداب
Deduction	استخراج
Deduction, empirical	تجربی استخراج
Deduction, transcendental	ماورائی استخراج
Deductive	استخراجی
Deep reflex	اندر درنی اضطراری
Defect, auditory	سمی نقش
Defect, dermal	جلدی نقش
Defect, malnutrition	کم غذایی نقش
Defect, mental	ذهنی نقش
Defect, motor	حرکی نقش
Defect, physical	جسمانی نقش
Defect, sensory	حسی نقش
Defect, speech	نقش گویانی
Defect, visual	نقش بینایی
Defects, acquired	اکسایی نقش
Defects, congenital	örطی نقش
Defence mechanism	دفاعی میکانیہ
Defensive	دفاعی
Defensive hostility	دفاعی خاکست
Defensive structure	دفاعی ساخت / دفاعی نظام
Deficiency	کم
Definiendum	موخود ع تعریف
Definiens	اجزاء ع تعریف

Definition	تعريف
Definition, accidental	اعراضی تعریف
Definition, analytic	تجزیائی تعریف
Definition, circular	دوری تعریف
Definition, connotative	معنوی تعریف
Definition, contextual	سیاقی تعریف
Definition, conventional	روابطی تعریف
Definition, deductive	استخراجی تعریف
Definition, demonstrative	بین تعریف
Definition, denotative	مصدراتی تعریف
Definition, figurative	تمثیلی تعریف
Definition, genetic	نشانی تعریف
Definition, impredicative	غیرمحوتی تعریف
Definition, inductive	استقرائی تعریف
Definition, inter-verbal	متداول لفظی تعریف
Definition, lexical	لغوی تعریف
Definition, logical	منطقی تعریف
Definition, Negative	منفی تعریف
Definition, Nominal	اسمی تعریف
Definition, obscure	مبهم تعریف
Definition, operational	تعریف با عمل
Definition, ostensive	تعریف بذریعه مثال
Definition, persuasive	ترنیبی تعریف
Definition, precising	تعیینی تعریف
Definition, real	حقیقی تعریف
Definition, redundant	تعریف فضولی
Definition, semantical	معنیاتی تعریف

Definition, stipulative	مقرره تعریف
Definition, substantial	اصلی تعریف
Definition, synonymous	متراوون تعریف
Definition, syntactical	نحوی تعریف
Definition, Tautological	تکراری تعریف
Definition, theoretical	نظری تعریف
Definition, narrow	محروم تعریف
Definition, wide	غیر محروم تعریف
Definition, verbal	لفظی تعریف
Definition by classification	تعریف په اصناف
Definition by division	تعریف په تقسیم
Definition by extension	تعریف په اطلاق
Definition by intension	تعریف بالمعنى
Definition by type	تعریف بلحاظ طبایب
Deflection	انصرافات
Deformity	بدہیتی
Deformity, mental	ذہنی بدہیتی
Deformity, physical	جسمانی بدہیتی
Degeneracy	انحطاط (انحلالیات)
Degree	درجہ - سند
Dehumanization	ازالم آدمیت
Dehumanized	آدمیت پا خختہ
Deification	معبد طرازی
Deism	الہ پرستی
Deja vu	التباس شناخت
Deliberation	غور و خوبن
Delight	مسرت

Delinquency	بدراءی
Delinquent	بدراء
Delinquent child	بدراء بچہ
Deliriod	ہزیان
Delirious mania	ہزیانی خبط
Delirium	ہزیان
Delirium tremens	رعنیہ ہزیان
Delusion	واہمہ
Delusion, hypochon- driacal	وہم علاالت
Delusion, self- condemnatory	خود ملامتی واہمہ
Delusion of influence	اثراندازی واہمہ
Delusion of jealousy	رقابت واہمہ
Delusion of persecution	تعذیب واہمہ
Delusion of reference	حرالہ واہمہ
Dematerialization	ازالم شخصیت
Demented	فائرالعقل
Dementia paralytica	مشلوی فتور
Dementia praecox	پیش رس فتور
Demerol	ڈیمرول (درو)
Demi-god	اپ دیوتا
Demiurge	آفرندہ
Democratic ethics	جمهوری اخلاقیات
Demography	مطالعہ آبادی
Demon	مفتریت
Demonic possession	آسمیب زدگی
Demonology	اعقریتیات
Demonstration	منظارہ

Demonstration (Logic)	ثبت (منطق)
Demonstration centres	مراکز مظاہرہ
Demonstrator	ڈیما نشریٹر
Demophobia	خوف بحوم
Demoralization	پست حوصلگی
Demoralized	پست حوصلہ
Denomination	تسبیہ
Denominational institution	فرقا داری ادارہ
Dendrik (Dendron)	شجری
Dendrite	شجریہ
Denotation	تصنیق
Denotative	تصداق
Denotative-connotative view	تصداقی مفہومی نقطہ نظر
Denotative view	تصداقی نقطہ نظر
Denteropia	سرخیزی کوری
Dentition	دندان در آوری
Deontology	واجبیات
Deontological ethics	واجبیاتی اخلاقیات
Department	شعبہ - حکمہ
Department, curriculum	شعبہ نصاب
Department, education	شعبہ تعلیم
Depersonalization	ازالہ شخصیت
Depolarization (of neuron)	انزالہ قطبیت (عصبائی)
Depressant	مسکن
Depression	افسردگی
Depressive cycloid component	موجز افسردگی پہلو
Depressive stupor	افسردگی عشق

	محدودی
Deprivation	ازاله مسئلله گری
Deproblematization	ازاله مسئلیت
Deproblemization	غیر واقعیان گری
Dereistic thinking	اشتفاق- اخذ
Derivation	مشتق ابداعی توجه
Derived primary attention	جلد تراش
Dermatome	جلد پیا
Dermatometer	ازاله تقدس
Desacralization	ازالم درسیت
Deschoology	بیان
Description	مبهم بیان
Description, ambiguous	متغیر بیان
Description, definite	پالوسطه بیان
Description, indirect	بیانیه تصویریت
Descriptive judgement	بیانیه زیان
Descriptive language	بیانیه ساخته
Descriptive science	بیانیه نظریه
Descriptive theory	چوڑنا
Desert	دست کشی
Desertion	ازاله ختن
Desensitization	جنس منقوص
Desexualized libido	اصول اشتہا
Desiderative (or appetitive) principle	ڈرائیں - نظر
Design	تئیبی دلیل (راهیات)
Design, argument from	منصب عربی
Designation	معارفه
Designatum	

Desire	خواہش
Desocialization	ازالہ سماجیت
Desocialization, psychotic	مجنونانہ ازالہ سماجیت
Desomatization	ازالہ جسدیت
Desomatization, progressive	تمددجی ازالہ جسدیت
Despair	یاس۔ مایوسی
Despondency	شکستہ خاطری
Destiny	تقدیر
Detachment	بے تعلق
Detention	زوقیت
Detention home	ترقبیت گاہ
Deterioration index	اشاریہ انحطاط
Deterioration quotient	شرح انحطاط
Determinant	تعین کننده
Determinant score	تعین شمار
Determinate duty	معین فرض
Determination	تعین
Determinism	تعینیت
Determinism, causal	جبریت
Determinism, "hard"	سخت جبریت
Determinism, mechanical	میکانیکی تعینیت
Determinism, "Soft"	زرم جبریت
Determinism, Telic	غایبی تعینیت
Deterrent theory of punishment	السداری نظریہ سزا
Development	نشور نہاد
Development, arrested	مو قوف نشور نہاد
Development, autogenous	خود زد نشور نہاد

Development, cephalocaudal	سرتادم نشورمنا
Development, character	نشورمنائے سیرت
Development, deviant	انحرافی نشورمنا
Development, educational	تعلیمی نشورمنا
Development, innate	خلقی نشورمنا
Development, intellectual	ذہنی نشورمنا
Development, mental	ذہنی نشورمنا
Development, moral	اخلاقی نشورمنا
Development, multidimensional	پہمہ جہتی نشورمنا
Development, ontogenetic	شخصی نشورمنا
Development, personality	نشورمنائے شخصیت
Development, phylogenetic	نسلی نشورمنا
Development, physical	جسمانی نشورمنا
Development, prenatal	قبل پیدائش نشورمنا
Development, proximodistal	مرکز تا اطراف نشورمنا
Development, sensory	حسی نشورمنا
Development, social	سماجی نشورمنا
Development, somatic	جسمی نشورمنا
Development, class	جماعتی نشورمنا
Developmental direction, law of	قانون سمت نشورمنا
Developmental task	نشرا فرا تفولیض
Deviant	انحرافی، مخت
Deviant behaviour	انحرافی کردار
Deviation	انحرافات
Deviation, average	ادسٹ انجراٹ
Deviation quartile	ربع انحرافات
Devices, screening	پر ددا خفا - صنف

Dexadrine	ڈیس فرین
Dexterity	چاپک دستی
Dexterity, manual	حرفتی چاپک دستی
Dextrosinistral	ہتاین ہٹنا
Diabolism	شر پرستی
Diado-chokinesis	رو سستی تیز حرکت
Diagnosis	تشخیص
Dialectic (n)	کلام
Dialectic	جدلیات
Dialectic transcendental	قبل ماورائی جدلیات
Dialectic, triadic	سر فرقی جدلیات
Dialectical method	کلامی طریقہ۔ مدلیانی طریقہ (سرقاہ)
Dialectics	جدلیات ہیگل
Diallelus	دوری استدلال
Dialogism	دہرا استنباط
Diamat	جدیانی نادیت
Dianoia	استدلالی فکر (انلاظون)
Diary	ڈاگری
Dia-thesis	فطری میلان۔ ارنٹی میلان
Diatribé	یخو
Dichoglotic stimulation	دو زبانی تفع
Dichorhinic stimulation	دو شمی تفع
Dichotomy	دو گانہ تقسیم - دوئی
Dichromatism	دو بونیت
Dictates of conscience	احکام نہیں
Dictates of reason	احکام عقل
Dictum	قول

Dictum deomni of nullo	قول ایجاد کل
Didactic	ناصحانہ
Didactic analysis	ترمیتی تحلیل
Didactic apparatus	مالٹسوری سامان تعلیم
Didactic group therapy	ناصحانہ اجتماعی علاج
Diencephalon	ینخ
Dietary laws	اصول غذا
Difference	فرق۔ اختلاف
Difference, inborn (innate)	خلقی فرق
Difference method	طریقہ، اختلاف
Difference, indirect	با واسط طریقہ اختلاف
Difference, rank	فرق مدارج
Difference rank correlation	فرق مدارج ربط
Difference threshold	سرحد فرق
Differentia	ماہبہ الامتیاز
Differential forgetting	تفرقی سہو
Differentiation	تفرق
Diffuse sclerosis	منتشر طابیت خلیات
Diffuse thalmic system	منتشر عصبی مبدأ نظام
Diffusion	انتشار
Digit span	دست معرفت اعداد
Digit span test	دست معرفت اعداد آزمائش (حافظہ)
Dignity	وقار
Dilapidation	شکستہ حالی
Dilatine	ڈائلاین
Dilemma	ذو جہتیں
Dilemma, complex	ذو جہتیں مرکب

Dilemma, constructive	مشت فوجہتین
Dilemma, destructive	منفی فوجہتین
Dilemma, rebuttal of	تقلیب فوجہتین
Dilemma, simple	مفرد فوجہتین
Dimaris	ڈیمارس
Dimension	بعد دیجع البعاد
Diorama	ڈائیوراما
Diflacusis	دو صرفی ساعت
Diplegia	متناہل اعضا۔ فارم
Diploma	ڈبلپرما
Diploma examination	ڈبلپرما امتحان
Diplopia	دونظری ریمارٹ
Diplopia, binocular	دو چشمی دونظری
Diplopia, monocular	کیچشمی دونظری
Dipsomania	خبطے
Direct causation	بلاؤ اسٹر تعلیل
Direct reduction	بلاؤ اسٹر تحویل
Direction	ہدایت۔ سمت
Director	ڈائریکٹر
Disability	معذوری
Disagreement	اختلاف رائے
Disamis	ڈیسامس
Disanalogy	غلط مثال
Disappointment	ماسوی
Discharge	اخراج وہان
Disciplinarian	ضبط پسند
Disciplinary	تاریی

Discipline	دسپلین - ضبط - منضبط علم
Discipline, formal	رسمی ضبط
Discipline, mental	زہنی ضبط
Discipline, school	ضبط مدرسہ
Discovery, method of	طریقہ دریافت
Discplacing test	ترصیح آزمائش
Discrepancy	تبانی
Discrete series	غیر متصل سلسلہ
Discretion	تمیز - اختیار تمیزی
Discrimination	امتیاز
Discrimination, brightness	امتیاز تابانی
Discrimination, flicker	لرزش نور امتیاز
Discrimination, perceptual	اوراکی امتیاز
Discussion	بحث - مباحثہ
Discussion method	طریقہ مباحثہ
Disequilibrium	عدم توازن
Disgust	بے ناری
Disinclination	عدم میلان
Disinhibition	ازراہ انہمار بستگی
Disintegration	انتشار
Disinterested action	بے غرض عمل
Disinterestedness	عدم دلچسپی
Disjunct	منفصل
Disjunction	انفصال
Disjunction, strong (or exclusive)	محکم انفصال
Disjunction, weak (or inclusive)	غیر محکم انفصال
Dismissal	برطرفی

Disorder	بے ترتیبی - بد نظمی
Disorder, expressive	ظاہر خلل
Disorder, psychogenic	نفس زا خلل
Disorder, receptive	آخر خلل
Disorder, somatogenic	جسم زا خلل
Disorganization	بے تنظیمی
Disorientation	اختلاں سمت
Dispersion	بکھراو - پھیلاؤ -
Disphasia	الفاظ ادا نینگی نقش
Displacement	بے محلی (ردیبہ)
Disposition	میلان طبع - افمار طبع
Disrespect	بے ادبی
Dissection	مقابلہ
Dissipation	اتلات
Dissociation	افراق
Dissociative reaction	افراق ردعمل
Dissolution	تحلیل
Dissonance	بے آہنگی
Dissonance, cognative	دوقون بے آہنگی
Dissuasion	امتناعی ترغیب
Dissuasive	امتناعی
Distortion	تحريف - سخ
Distraction	اختلاں (دوجہ)
Distribution	استفراق - توزیعی
Distribution, skewed	غیر متسائل استفراق
Distribution curve, bimodal	دو اکثریتی غیر متسائل استفراق
Distributive justice	توزیعی عمل

Distributive use	استقراری استعمال
Distrust	بے اعتباری
Disuse, principle of	اصول عدم استعمال
Disvalue	لا قدر
Disynaptic arc	دو ہرہ انتقالی قوس
Ditheism	ثنویت (رالہی)
Diurnal (daily) rhythm	یومیہ تواتر
Division	تقسیم
Division, continued	مسلسل تقسیم
Division, cross	مخلوط تقسیم
Division, logical	منطقی تقسیم
Division, metaphysical	مابعد طبیعتی تقسیم
Division, overlapping	مختلط تقسیم
Division, physical	طبیعی تقسیم
Division, too narrow	تنگ تقسیم
Division by dichotomy	دو قسمی تقسیم
Divorce	علیحدگی - طلاق
Docility	اطاعت پذیری
Doctrinaire	نظریہ پرست
Doctrine	اصول - نظریہ
Doctrine, the mean	نظریہ اوسط
Doctrine of final causes	نظریہ علت غانی
Doctrine of inherent rights	نظریہ حقوق خالق
Documentary hypothesis	رستاویری فرضیہ
Dogma	از عان - از عانی عقیدہ
Dogmatic	از عان پرست
Dogmatic idealism	از عانی تصوریت

Domestic science	ہوم سائنس۔ علوم خانہ داری
Dominance	غلبہ
Dominant	غالب
Dominant behaviour	تحکما نہ کردار
Dominant characteristics	نیاں خصوصیات
Dominator (retinal)	غالب آفسز رتینا ()
Donatism	ابتدائی تنویر
Donum super-addition	نضل یے ہمایت
Dorsal	پشتی
Dorsal root	پشتی مبدأ
Dot	نقطہ
Dot, figure	نقطوں کا حاکم
Double aspect hypothesis	در پہلو فرضیہ
Double aspect theory	در پہلو نظریہ
Double bind hypothesis	دو بندش فرضیہ / متقاد بندش فرضیہ
Double language hypothesis	روزگان فرضیہ
Double negation, (D.N.) principle of	اصول لغی مکرر
Double promotion	دو ہری ترقی
Double shifts	دوباری
Double testing technique	دو ہری جائز تکنیک
Doubt, methodic	مہماجی تکلیف
Doubt, provisional	عارضی تکلیف
Doubt, systematic	منظم تکلیف
Douglas-Haldane method	ڈیگس ہالڈین طریقہ
Down's Syndrome	ڈاؤن ہجر نامہ ملامات
Drainage theory	نظریہ سیلان و عصبی تووانائی ()
Dread	دھشت

Dream	نیزخی مواردِ خواب
Dream content, latent	ائشکار مواردِ خواب
Dream content, manifest	بے سمت روشن
Drifting reaction	مشق - ڈریٹ
Drill	محرك قوت
Drive	جذباتی محرك قوت
Drive, affectional	اشتہانی محرك قوت
Drive, appetitive	کراہی محرك قوت
Drive, aversive	دست دوزی محرك قوت
Drive, manipulative	نظریہ تحقیف محرك قوت
Drive, reduction theory	امعاںی محرك قوتیں
Drives, visceral	خط سفر
Dromomania	تاریک مدرسہ
Dropout	ڈرگ لٹ
Drug addiction	مسکراتی علاج
Drug therapy	طبل گوش
Drum(ear)	دوہری دناداری
Dual allegiance	وہنی نظریہ
Duplicity theory	بیرونی محلہ (دماغ)
Duramater	بوتاپن
Dwarfism	صی فلیت نا
Dynamogenic	صی فلیت زا اثر اصول
Dynamogenic effect	اصول صی فلیت زانی
Dynamogenesis, principle of	حاسیان ثنویت سع
Dyophysites	آواز آندھی
Dysacusia	ستروط سر لعنت
Dysaphia	

Dysarthria	تکلم نقص و دماغی سبب سے)
Dysdiadochokinesis	غیر متوارن عضلاتی حرکت
Dyseneia	تکلم نقص (بہرے پن کی وجہ سے)
Dysfunction	فعل نقص
Dysgenesis	نفس استقرار حمل
Dysgnosia	وظیفہ ادراک نفس
Dysgonadal syndrome	مذہ جنس نفس علامات
Dysgraphia	لفظی قوت تحریر
Dyskinesia	ارادی حرکت نفس
Dyslalia	نفس نطق
Dyslexia	فہم عبارت نفس
Dyslogia	تقریر نفس
Dysmimia	اشارت نفس
Dysopia	بصارت نفس
Dysorexia	اشتها نفس
Dyspepsia	ٹھعفت معدہ
Dysphemia	اختلال تکلم
Dysphonia	آواز نفس
Dysphoria	مریضانہ افسردگی
Dysplastic type	غیر مصنن ماتپ رکر شمر
Dyspraxia	ربط فعل نفس
Dyssocial reaction	تا قص سماجی رو عمل
Dysteology	لاغائیت (فلسفہ) بے مصرفی رخصویات
Dystrophy	ناقص تغذیہ - عقلیات نشوونما نفس

E

Ear, External	بیرونی کان
Ear, internal	اندرونی کان
Ear, middle	وسطی کان
Ear bone	کان ہڈی - استخان گوش
Ear drum	کان پرده - طبل گوش
Ecclesiolatory	کلیسا پرستی
Ecclesiology	کلیسیات
Ecdemomania	خطف سفر
Echo	گونج - صدائے بازگشت
Echolalia	آواز نقلی (عبد طفویل)
Echopathys	مریضانہ نقلی
Echopraxia	حرکت نقلی
Eclectic	انتحابی
Eclecticism	انتحابیت
Ecology	ما خوبیات
Economic determinism	اقتصادی جبریت - معاشی جبریت
Economy, principle of	اصول اقتصاد
Ecstacy	وہم
Ecstasis	ورایت
Ectomorph	لا غر اندازم

Ectomorphy	لا غزانتامی
Ectoplasm	قشر خلیه
Ecumenicity	اتحاد دنیا هب
Edipal frustration	ایدپی نامرا دری
Educability	ترمیت پذیری
Educable	ترمیت پذیر
Educand	ستعلم
Education	ترمیت تعلم
Education, adolescent	تعلیم نوجوانان
Education, adult	تعلیم بالغان
Education, aesthetic	جا لیاق تعلم
Education, agriculture	زرعی تعلم - زراعتی تعلم
Education, ancient	تدریم تعلم
Education, audiovisual	سمعی بصری تعلم
Education, basic	بنیادی تعلم
Education, business	کار و بازاری تعلم
Education, camping	کمپ تعلم
Education, cardinal principles of	بنیادی اصول تعلم
Education, character	تعیم سیرت
Education, charity	خیرانی تعلم
Education, child	تعلیم اطفال
Education, civic	تعلیم شهربستی
Education, classical	کلاسیکی تعلم
Education, commercial	تجارتی تعلم
Education, comparative	تفاصلی تعلم
Education, completion	تکمیلی تعلم
Education, compulsory	لازمی تعلم

Education, creative	تخليقي تعلم
Education, cultural	تہذیبی تعلم
Education, elementary	ابتدائی تعلم
Education, elite	تعليم خواص
Education, folk	عوامی تعلم - لوک تعلم
Education, formal	رسمی تعلم
Education, free	مفتوح تعلم
Education, functional	اغاری تعلم
Education, fundamental	اساسی تعلم
Education, general	عام تعلم
Education, higher	اعلی تعلم
Education, individualized	الفرادی تعلم
Education, industrial	صنعتی تعلم
Education, intentional	ارادی تعلم
Education, inter-cultural	بین تہذیبی تعلم
Education, liberal	برل تعلم
Education, literary	ادبی تعلم
Education, milieu	ما حول تعلم
Education, modern	جریدہ تعلم
Education, moral	اخلاقی تعلم
Education, multiple track	کشیر جہت تعلم
Education, national	توپی تعلم
Education, negative	منفی تعلم
Education, nursery	زسری تعلم
Education, one track	یک جہت تعلم
Education, outdoor	کھلی فضائی تعلم
Education, physical	جسمانی تعلم

Education, positive	مثبت تعلیم
Education, post doctoral	بعد دکتوری تعلیم
Education, pre-vocational	قبل پیشہ تعلیم
Education, primary	پا اموزی تعلیم - تحصیلی تعلیم
Education, private denominational	غیر مسکنی فرقہ واری تعلیم
Education, professional	اعلیٰ پیشہ دراز تعلیم - تعلیم پیشہ
Education, progressive	ترقبی پسند تعلیم
Education, public	تعلیم عامہ
Education, religious	غیر مسکنی تعلیم
Education, safety	حفاظتی تعلیم
Education, secondary	ثانوی تعلیم
Education, sectarian	فرقہ واران تعلیم
Education, socialized	سماج رخ تعلیم
Education, socio-economic	سماجی معاشی تعلیم
Education, special	خصوصی تعلیم
Education, speech	ترتیت نطق
Education, teacher	تعلیم اساتذہ
Education, technological	ٹکنیکالی تعلیم
Education, tripartite system of	سرکاری نظام تعلیم
Education, two track	دو جہت تعلیم
Education, visual	بصری تعلیم
Education, vocational	پیشہ دراز تعلیم
Educational aesthetics	تعلیمی جایات
Educational ladder	تعلیمی زینہ
Educational material	تعلیمی سامان
Educational philanthropy	تعلیمی تحریک
Educational plan	تعلیمی منصوبہ

Educational policy	تعلیمی پالسی
Educational prediction	تعلیمی پیش اندازه
Educational reforms	تعلیمی اصلاحات
Educational retardation	تعلیمی اببطا
Educational service	محکمه تعلیم - تعلیمی ملازمت
Educational technology	تعلیمی تکنیکیات
Educational committee	تعلیمی کمیٹی
Educative ability	قابلیت معلمی
Educative theory of punishment	تعلیمی نظریہ سزا
Educator, teacher	معلم اساتذہ
Effect	اثر - معلوم
Effect, atmosphere	فضای اثر
Effect, autokinetic	گھان حرکت
Effect, complex	مرکب اثر
Effect, emergent	فجایی اثر
Effect, heteropathic	مخالف الترع اثر
Effect, joint	مشترک اثر
Effect, law of	قانون اثر
Effect, mixed	مخلوط اثر
Effect, recency	اثر قریب زمان
Effect, resultant	ماحصلی اثر
Effect, reversal	تعلیمی اثر
Effect, shock	صدماقی اثر
Effect, warming up	سرگرمی زما اثر
Effector	اثر انداز
Effects, heteropathic intermixture of	مخالف الترع آمیزش اثرات
Effects, homogenous intermixture of	سبحانس آمیزش اثرات

Effects, intermixture of	آمیزش اثرات
Effects, plurality of	تعدد اثرات
Effects, progressive	تدریجی اثرات
Efferent	برآور
Efficiency	کارگردگی
Efficiency index	کارگردگی اشاریہ
Efficient	زنانہ پن
Effluxes, theory of	نظریہ تکس اندازی (متصل ادراک)
Egalitarianism	مساواتیت
Ego	انا۔ ایغز
Ego, absolute	اناے مطلق
Ego, pure	اناے محض
Ego, empirical	تجربی انا
Ego, transcendental	ما درا فی انا
Ego-adaptation	انا تطابق
Ego-adaptive system	انا تطابق نظام
Ego-alien	اناے بیگانہ
Ego-alter theory	نظریہ غیر دانا
Ego-assertion	ادعاۓ انا
Ego-centric	خود مرکز۔ انا مرکز
Ego-centric predicament	انا مرکز شخصہ
Ego-centricty	انا مرکزت۔ خود مرکزت
Ego-centric speech	انا مرکز کلام
Ego-function, autonomous	خود اختیاری فعلی انا
Ego-ideal	انا شام
Ego-Identity	انا شخص
Ego-instinct	انا جیلت

Ego-introjects	انا در خیل
Egoism	انا تانیت - نظریه نلاح دات
Egoist	انا پرست
Egoistic hedonism	انا تی لذت بیت
Egoistic naturalism	انا تی نظریت
Egology	انا میت
Ego-protection	تحفظ انا
Ego-psychology	انا نقیبات
Ego-resistance	انا تی مزاحمت
Ego-splitting	شق اانا
Ego structure	ساخت اانا
Ego-syntonic	انا هم آہنگ
Ego-threat	انا خطره
Egotism	خود پرستی
Eidetic	خيالی - خيالیانی
Eidetic image	خيالیانی تمثال
Eidetic theory (of knowledge)	نظریه خياليات (علم کا)
Eidetic type	تخليقی طاب
Eidolon	خيال پیکر
Eirenic epistemological	علمیانی سعی مفاهیمت
Elan vital	جوش حیات
Elasticity	پیک
Elation	سرخوشی
Eleaticism	ایلیانی فاسقر
Electro convulsive therapy (ECT)	برقی تشنیجی ملاج
Electro-diagnosis	برقی تیانی تشخیص
Electro-encephalogram (EEG)	برقی دماغ نگارش

Electromyogram	برقی عضد بکارش
Electronic theory	علم الکترون
Electro retinogram	برقی ریتینا نگارش
Electroshock therapy	برقی صدمہ علاج
Electroshock treatment	برقی صدمہ علاج
Element	عنصر
Elementalism	نظریہ عنصریت
Elimination	اخراج
Elimination, canons of	اصول اخراج
Elimination, complete	مکمل اخراج
Elimination, partial	جزوی اخراج
Emanation	صدور- اشراق
Emanationism	سلک اشراقت
Emancipation	آزادی - نجات
Embololalia	بھل صوت آمیز گفتگو
Embolism	سد شریان
Embryonic	جنینی
Embryonic stage	جنینی مرحلہ
Emergence	ظهور - فیبا
Emergent	نجایئے دراہد - نجایت ()
Emergent evolution	نجائی ارتقا
Emergentism	نجایت
Emmert's Law	قاضی ایرٹ
Emotion	جدبیہ
Emotion, asthenic	غمٹا ہوا جدبیہ
Emotion, aesthetic	جمالیاتی جدبیہ
Emotion, conditioned	مشروطی جدبیہ

Emotion, emergency theory of	ہنگامی ملاقات نظریہ جذبات
Emotion, sthenic	قوی الاطمار جذبہ
Emotion, tender	لطیف جذبہ
Emotional	جذباتی
Emotional acceptance	جذباتی قبولیت
Emotional adequacy	جذباتی موزوںیت
Emotional apathy	جذباتیے حسی
Emotional blocking	جذباتی رکاوٹ
Emotional blunting	کندھی جذبات
Emotional congruity, law of	جذباتی موزوںیت قانون
Emotional control	ضبط جذبہ
Emotional dementia	جذباتی فتور
Emotional deprivation	جذباتی محرومی
Emotional detachment	جذباتی تاریباٹگی
Emotional distortion	مُسخ جذبات
Emotional fixation	ارتکاز جذبہ۔ انجماڈ جذبات
Emotional growth	جذباتی نمو
Emotional ideation	جذباتی علی تصور
Emotional instability	عدم استقلال جذبہ
Emotional insulation	جذباتی عزل
Emotional maladjustment	جذباتی عدم مطابقت
Emotional maturity	جذباتی پُنچھی
Emotional pattern	انداز جذبات
Emotional refrigeration	جذباتی تبرید
Emotional regression	جذباتی رجعت
Emotional reinforcement	جذباتی تقویت
Emotional stability	استقلال جذبہ

Emotional stress	جنذباتی رہاڑ
Emotional suppression	امتناع جذبیہ
Emotional tension	جنذباتی کشیدگی یا تنازع
Emotive language	جنذباتی زبان
Emotive theory	نظریہ تو جیہہ جذباتی
Emotive meaning	جنذباتی معنی
Emotivism	جنذباتیت
Empathy	یہم احساسی
Empirical	تجربی
Empirical art	تجربی آرٹ
Empirical coherence	تجربی توانق
Empirical fact	تجربی امر
Empirical hedonism	تجربی لذتیت
Empirical logic	تجربی منطق
Empirical synthetic hedonism	تجربی ترکیبی لذتیت
Empirical utilitarianism	تجربی افوارتیت
Empiricism	تجربیت
Empiricism, atomistic	جوہری تجربیت
Empiricism, logical	منطقی تجربیت
Empiricism, passive	الفعالی تجربیت
Empiricism, pragmatic	عملیتی تجربیت
Empiricism, radical	انہما پسندانہ تجربیت
Empiricism, scientific	سائنسی تجربیت
Empiricism, sensationalistic	حسیانی تجربیت
Employee, transient	وقتی ملازم
Employee, self-improvement	خود بہتری کوش ملازم
Encephalitis	انہما دماغ

Encephalitis lethargica	التهاب دماغ سستی
Encephalization	التهابیت دماغ
Encephalopathy	علاج التهاب دماغ
Encounter	مقابلہ
End	مقصد-غایب
End-brain	منتهیہ دریغ
Endocrine balance	انڈوکرینی توازن
Endocrinology	علم انڈوکرین
Endocrinopathy	انڈوکرینی مرض
Endogenous hallucinogen	اندرونی دہم زمانہ
Endomorph	فریب شکم اینڈومارت
Endomorphy	فریب شکمی
Endograns, encapsulated	ملفوٹ عصبی تختی
Endspurt	اختنامی جست
Endowment	ردیعت
Endurance	قوت برداشت
Energetic type	توانائی ٹاپ
Energism	نظریہ تووانیت
Energism, altruistic	ہمہ فلاہی تووانیت
Energism, egoistic	خود فلاہی تووانیت
Energograph	تووانائی نگار
Energy	تووانائی
Energy, instinctive	حیل تووانائی
Energy, nervous	عصیٰ تووانائی
Energy, sex	جنسی تووانائی
Eneurosis	سلسل بول-بستر بول
Engram	نقش حافظہ

Enigma	معمہ۔ چیستان
Enlightened self interest	روشن خیالانہ خود منفادی
Enlightenment	روشن خیالی
Enlightenment, age of	عہد روشن خیالی
Enosimania	خطب عصیان
Enrolment	اندراج
Entailment	لزوم۔ لازم آنا
Entelechy	قوت غانی
Enterprise	نہم پسندی۔ بہم
Enthusiasm	جوشن
Enthymeme	اضماریہ
Enthymeme of the first order	اضماریہ اول (جب کا پہلا مقدمہ مذوف ہو)
Enthymeme of the fourth order	اضماریہ درجہ چہارم (جب کا چوتھا مقدمہ مذوف ہو)
Enthymeme of the second order	اضماریہ درجہ دوم (جب کا دوسرا درجہ مذوف ہو)
Enthymeme of the third order	اضماریہ درجہ سوم (جب کا تیسرا درجہ مذوف ہو)
Entities, neutral	بے رنگ موجودات
Entity	موجود
Enteptic phenomenon	درون حشم منظہر
Entropy, cultural	تہذیبی ازالہ توانائی
Environment	ماجنول
Environment, cultural	تہذیبی ماجنول
Environment, physical	طبیعی ماجنول
Environmental factor	ماجنولی عنصر۔ ماجنولی عامل
Environmental therapy	ماجنولی علاج
Envy	رشک۔ حسد

Eonism	اختیار دفع - جنس مخالفت
Fpicheirema	قیاس تائیدی
Epicheirema, complex	مرکب قیاس تائیدی
Fpicheirema, complex- double	دوجه مرکب قیاس تائیدی
Fpicheirema, complex- single	اکبر مرکب قیاس تائیدی
Fpicheirema, double	دو هر آن قیاس تائیدی
Epicurianism	ایقوریت
Epidemic encephalitis	وبائی انتہاب دراغ
Epidemiology	ربائیات
Epigenesis	نظریہ تولید متوازنی
Epilepsy	مرگی . صرع
Epileptic cry	صرعی چیخ
Epileptic equivalent	شبیه صرع
Epileptic furore	صرعی ہیجان
Epileptoid component	صرعی اجزا رشته سیت ()
Epinephrine	اپی نفرین
Epinosis	مرض منفعت
Epinosic gain motive	مرض منفعت محک
Epiphenomenalism	ضمنی مظہریت
Epiphenomenon	ثانوی مظہر
Episcopalian	اسقفی
Epistemic	علمی - متعلق علم
Epistemic Independence	علمیت عدم انحصار
Epistemology	علمیات
Epistemological dualism	علمیاتی تنویرت
Epistemological idealism	علمیاتی تصوریت
Epistemological monism	علمیاتی وحدت

Epistemological realism	علمیاتی حقیقت
Episyllogism	ضمنی قیاس
Epithalamus	پالائے مبدأۓ اعصاب
Epithelial cell	غشائی خلیہ
Epochalism	عہد آفرینی
Epoch	عہد
Equal appearing intervals	مساوی محسوس وقف
Equalitarianism	مساواتیت
Equal loudness contours	مساوی صوتی نشیب و فراز
Equal sense differences, method of	مساوی محسوس فرق طریقہ
Equal weighting	مساوی تعین وزن
Equality benefits	مساویات منافع
Equality of consideration	مساویات رعایت
Equality symbol	علامت مساوات
Equanimity	جمعیت خاطر
Equation, logical	منطقی مساوات
Equational theory	مساویاتی نظریہ
Equilibrium	توازن - تعادل
Equipment	سامان
Equipollence	ہم قدری
Equipollency of propositions	ہم قدری (رتضایہ کی)
Equipossible	یکسان ممکن
Equipotentiality	تساوی القوت
Equiprobabilism	ہم احتمالیت
Equity	عدل
Equivalent form reliability	مساوی القدر معنیتی
Equivalent group	مساوی القدر گروپ

Equivocal	ذو معنی۔ ذو معنین
Erect vision	راست بصارت
Ergesis	بیش خسی۔ بیش شعور
Ergograph	ارگو گراف
Eros (Life instinct)	تقاضہ حیات رایروس)
Eroticism, anal	میزی شہرت
Eroticism, oral	دھانی شہرت
Eroticism, genital	تناسلی شہرت
Eroticism, phallic	ابتدا ن۔ تناصل شہرت
Erotomania	خبط شہوت
Error	خطا
Error, correctible	قابل تصحیح خطأ
Error, generosity	خطائے افراط
Error-choice technique	(رجبری) انتخاب خطائکنیک
Error of estimate	خطائے تخمینہ
Escape	فار
Escape mechanism	فاری گرہ
Escaping the horns of a dilemma	دو طرفہ مصیبت گزی
Escapism	فارادت
Escapist	فاری۔ فرار پند
Eschatology	معاریات
Esoteric	باطنی
Espirit de corps	روح یگانگی
Esse est percipi	درک ہی موجو در ہے
Essence	اصل یا پہیت ذات
Essence, metaphysical	ما بعد انبطبیقی ماہیت یا اصل
Essence, nominal	اسکی ماہیت

Essence, real	حیقیقی مایسٹ
Essential attribute	لازی مفت
Essentialism	فلسفہ، ماہیت
Esthesis	حس۔ احساس
Estimate	تحمیلہ
Estimate, probability	تحمیلہ اُنپیٹ
Estimate, unbiased	بے لاک تحمیلہ
Estimation	تحمیل
Estrogen	اُسٹروجن
Estrus cycle	دور غلبہ شہوت (رجیوان)
Eternalism	ابدیت
Eternal object	ابدی شے
Eternity	ابدیت۔ قدم
Ethical	اخلاقیاتی
Ethical absolutism	اخلاقیاتی مطابقت
Ethical atomism	اخلاقیاتی جوہریت
Ethical egoism	اخلاقیاتی نظریہ۔ فلاح ذات
Ethical formalism	اخلاقی صوریت
Ethicality	اخلاقیت
Ethical hedonism	اخلاقیاتی لذتیت
Ethical idealism	اخلاقیاتی عینیت
Ethical justice	اخلاقی انصاف
Ethical legalism	اخلاقیاتی قانونیت
Ethical mysticism	اخلاقیاتی سریت
Ethical nihilism	اخلاقیاتی انکاریت
Ethical realism	اخلاقیاتی حقیقت
Ethical relativism	اخلاقیاتی اضافیت

Ethical relativity	اخلاقی اضافیت
Ethical right	اخلاقی حق
Ethical scale	اخلاقی پیمانه
Ethical sense	اخلاقی حس
Ethical view-point	اخلاقی نقطه نظر
Ethics	اخلاقیات
Ethics, aesthetic	جمالیاتی اخلاقیات
Ethics, descriptive	بیانی اخلاقیات
Ethics, dual system of	دو ہر انظام اخلاقیات
Ethics, hetero-psychological	و گر نفیا تی اخلاقیات۔ مختلف نفیا تی اخلاقیات
Ethics, idio-psychological	زاتی نفیا تی اخلاقیات۔
Ethics, individual	افرادی اخلاقیات
Ethics, non-normative	غیر اقداری اخلاقیات
Ethics, optimate	اشرافی اخلاقیات
Ethics, philosophical	فلسفیان اخلاقیات
Ethics, pure	اخلاقیات بحص
Ethics, social	سماجی اخلاقیات
Ethics, theistic	الہیاتی اخلاقیات
Ethnic discrimination	نسلی امتیاز
Ethnic group	نسلی گروپ
Ethnocentrism	نسلی مرکزیت
Ethnopsychology	نسلی نفیا تی
Ethology	علم آداب و رسوم
Ethos	آداب و رسوم
Etiquette	مجلسی آداب
Eudaemonia	سعادت
Eudaemonism	نظریہ سعادت (فلسفہ ارسطو)

Eugenics	علم اصلاح نسل
Eunuchism	آخستگی
Euphoria	مریقانہ بشاشت
Euthanasia	رحم دارانہ انقطاع حیات
Evaluation	اندازہ قدر۔ پیاساکش قدر
Evaluative criterion	تعین قدر معیار
Evaluator critic	تعین قدر رنائزد
Evangelical	انجیلی
Evangelicalism	انجیلیت۔ انجیلی عقیدہ
Evaporation	تبخیر
Event	وقوعہ
Event, causeless	بے علت رقونہ
Event, probable	انلب رقونہ یا نسبی
Event, uncaused	بے علت وقوعہ
Even-tempered	توازن مزاج۔ متوازن مراج
Eventivity	وقوعیت
Events, association of	اتلان وقوعات
Events, incompatible	میباش وقوعات
Evidence	شہادت۔ ثبوت
Evidence, circular	ثبوت دردی
Evidence, circumstantial	قرائیں ثبوت
Evidence, cumulative	چھوڑی شہادت/ ثبوت
Evidence, preponderance of	غلیظہ شہادت
Evidence, testimonial	تسدیقی شہادت
Evil	شر
Evil, metaphysical	مالیعد طبیعی شر
Evil, moral	اخلاقی شر

Evil, physical	طبعی شر
Evolute	ارتقاء‌یه
Evolution	ارتقاء
Evolution, compound	مرکب ارتقاء
Evolution, inorganic	نامیانی ارتقاء
Evolution, ontogenetic	فرزندگی ارتقاء
Evolution, organic	نامیانی ارتقاء
Evolution, phylogenetic	نوعی ارتقاء
Evolution, simple	بساره ارتقاء
Evolution, super organic	فوق نامیانی ارتقاء
Evolution, theory of	نظریه ارتقاء
Evolutionary ethics	ارتقاء‌یی اخلاقیات
Evolutionary hedonism	ارتقاء‌یی لذت‌بیت
Evolutionary naturalism	ارتقاء‌یی فطرت‌بیت
Evolutionism	ارتقاء‌بیت
Exaggerated individualism	مفرط فردیت
Examination	امتحان
Examination, admission	امتحان داخلمه
Examination, annual	سالانه امتحان
Examination, audiometric	ساعت پیمایی امتحان
Examination, competitive	مقابله کی امتحان امتحان مقابل
Examination, degree	سندری امتحان امتحان سندری
Examination, diploma	ڈپلوما امتحان
Examination, entrance	ایٹرنس امتحان - امتحان دا خلمہ برائے اعلیٰ تعلیم
Examination, essay	مضبوون امتحان
Examination, final	آخری امتحان
Examination, half yearly	ششماہی امتحان

Examination, higher secondary	ہائی سکنڈری امتحان - اعلیٰ ثانوی امتحان
Examination, high school	ہائی اسکول امتحان
Examination, matric	میٹرک امتحان
Examination, medical	طبی معاشرہ
Examination, middle	مڈل امتحان
Examination, new type	جدید طرز امتحان
Examination, oral	زبانی امتحان
Examination, physical	جسمانی معاشرہ
Examination, practical	پریکٹیکل امتحان - اعلیٰ امتحان
Examination, primary	پرائمری امتحان
Examination, qualifying	اہلیت امتحان
Examination, quarterly	سرماہی امتحان
Examination, school leaving certificate	امتحان فراغت ہائی اسکول
Examination, short answer	نخصر جوابات امتحان
Examination for certificatum	امتحان برائے تصدیق
Examinee	امیدوار امتحان
Examiner	متحکم
Example	مثال - نمونہ
Example, concrete	مفروض یا مخصوص مثال
Example, symbolic	علمی مثال
Excellence	فضیلت
Exception	استثناء، مستثنیہ
Excess	زیادتی - تجاوز
Exchange teacher	تبادل استاد
Excitability	اشتعال پذیری
Excitation	اشتعال انگیزی
Excitation therapy	ہیچ علاج

Excitement	بسخان
Exciting cause	علت محکمہ
Excluded middle, law of	اصول امتناع اوسط
Exclusive egoism	اناپت شخص
Exclusivism	مالکیت
Excommunication	اخراج از جماعت
Excretory (System)	نظام بول و براز
Excursion, school	تعلیمی سیر
Exegesis	تفسیر
Exemplarism	نظریہ مثالیت
Exemplification	تئیلی ثابت - تئیلی تفسیع
Exemption	استثناء
Exercise	مشترک
Exercise, dictation	مشترک املاء
Exercise, law of	امول مشترک
Exhaustion	حستگی
Exhaustion syndrome	علامات خستگی
Exhibitionism	نمایش پسندی
Exhortation therapy	تاكیدی طریقہ علاج
Exhypothesi	بروئے مفرودنہ
Existence	وجود
Existent	مووجود
Existential anxiety	وجودی تشویش
Existential import	وجودی معنیوں
Existentialism	وجودیت
Existentialism, atheistic	علمداز وجودیت
Existentialism, theistic	خدا پرستانہ وجودیت

Existential quantifier	وجودی مقدار یہ
Existential proposition	وجودی قضیہ
Existential thinking	وجودی فکر
Existential psychology	وجودی نفیات
Exogenous	بیون زا
Exophthalmic goitre	گھنٹاگا
Exorcism	دفع آسیب عمل
Exoteric	ظاہری
Expectancy table	توقع جدول
Expectancy value theory	نظریہ توقع قدر
Expectatum	توقعہ
Expedience	از روئے مصلحت
Expedient	قرین مصلحت
Experience	تجربہ
Experience, active	فعالی تجربہ
Experience, passive	انفعالی تجربہ
Experience, primary	ابتدائی تجربہ
Experience, religious	مند ہی تجربہ روحانی واردات
Experience, un-contradicted	بلاتردیدہ تجربہ
Experience, pure	تجربہ بھن - خالص تجربہ
Experience unit	تجربی اکائی
Experientialism	تجربیاتیت
Experiential tendency	تجربی رنجمان
Experiment	اختیار
Experiment, crucial	فیصل اختیار
Experiment, delayed response	تأخری جواب اختیار
Experiment., natural	قدرتی اختیار

Experiment, negative	متغیر انتیار
Experiment, place learning	متام جوئی انتیار
Experiment, synthetic heat	ترکیبی حرارت انتیار
Experimental control	انتیاری کنترول
Experimental control group	انتیاری کنترول گروپ
Experimentalism	انتیاریت
Experimental neurosis	انتیاری عصی اختلال
Experimental variable	انتیاری متغیره
Experimentor	انتیار کننده
Experimentum crucis	فیصله‌گیران انتیار
Expiation	کفاره
Expiration	خاتمه اخراج نفس
Explanation	تشریح - توجیه
Explanation, naturalistic	نظریاتی توجیه
Explanation, popular	عامی توجیه
Explanation, scientific	سائنسی توجیه
Explanation, supernaturalistic	ما فوق نظری توجیه
Explanation by beginning	توجیه به آغاز
Explanation by end	توجیه به انجام
Explanation therapy	تشریح علاج
Explicit	اشکار - صریح
Explication	تصریح
Exploitation	استعمال
Exploratory	جستجوی
Explorable	تو پیغ طلب
Exportation	بلا واسطه استنباط (علمی منطق)
Exposition	بصراحت

Exposure deafness	معرضی بہتان
Expression	اظہار - مظہرہ
Expressive disposition	اظہاری انتشار طبع
Expressivity	منظہریت
Expulsion	اخراج
Extension	اطلاق - دسعت - توسيع - پھیلاؤ -
Extension, empty (or null)	لا اطلاق ریامنی اطلاق ()
Extension service	توسيعی سروس
Extensivity	دست
Extensity of pleasure	وسعت لذت
Extensor (muscle)	باسط عضله
Extensor-rigidity	باسط عضله سختی
Extensor thrust	باسط عضله درکا
Extenuating circumstances	تحفینی حالات
Externalization	اخراج
Exteriority	خارجیت
External frustration	خارجی نامرادی
Externalised	محترج
Externalism	ظاہریت
External law	خارجی قانون
External perception	خارجی ادراک
External relations, doctrine of	نظیری اضافت فارجی
External student	غیر معتمد طالب علم
Exteroceptor	بیرونی اخذ
Extinction (experimental)	انتیماری تدمیر
Extinction	تدمیر
Exterpation	قطع

Extra-mental	غیرنفسی - غیرذہنی
Extramural athletics	بیرونی مدرسہ ورزشی کھیل
Extra organic (factor)	برناہیانی (عامل)
Extra-pyrdmidal tracts(system)	برخزوٹی ریکٹ (نظام)
Extrasystole	ازائل القلب اس قلب
Extremism	اہمابندی
Extrinsic	بالغیر
Extrojection	تحڑتے
Extroversion	بیرون بینی - بیرون سستی
Extrovert	بیرون بین
Eyeball	دیدہ
Expressionism	افہماریہ
Expressive	منظر
Exterior	بیرون
Exteriority	بیرونی

F

Face-validity	ظاہری صحت
Facilitation	تسهیل
Fact	امرواقته
Factor	عامل
Factor, negative.	منفی عامل
Factor, positive	مشتبہ عالی
Factorial analysis	تجزیہ عوامل - غیر تجزیہ
Factorial matrix	عواملی زارچم
Factor loading	دزن عامل
Factor saturation	عاملی سیری
Factors, first order	عامل مرتبہ اول
Factors, second order	عامل مرتبہ دوم
Faculty	ملکہ - فیکٹری شبہ
Faculty, arts	فنون فیکٹری - آرٹس فیکٹری
Faculty, commerce	کامرس فیکٹری
Faculty, law	قانون فیکٹری
Faculty, mental	توت ذہنی - ذہنی ملکہ
Faculty, mythopoeic	اساطیر آفرین ملکہ
Faculty, science	سائنس فیکٹری
Faculty, verbal	ملکہ لفظی

Faculty director	ڈائریکٹر فیکٹری - ناظم فیکٹری
Faculty member	رکن فیکٹری - رکن شعبہ
Fad	شدید شفت
Faith	اعتقاد عقیدہ
Faith, implicit	کامل اعتقاد
Faith cure	علاج بالا اعتقاد
Faith idea	اعتقاد تصور
Faith philosophy	فلسفہ اعتقاد
Fallacious	معالطہ آمیز
Fallacy	معالطہ
Fallacy, culturalistic	تہذیبی طور میں معالطہ
Fallacy, extralogical	ما در لئے منطق میں معالطہ
Fallacy, formal	صوری معالطہ
Fallacy, genetic	نشانی معالطہ
Fallacy, inductive	استقرائی معالطہ
Fallacy, inferential	استنباطی معالطہ
Fallacy, informal	غیر صوری معالطہ
Fallacy, moralist	اغلا باتی معالطہ
Fallacy, non-inferential	غیر استنباطی معالطہ
Fallacy, non-logical	غیر منطقی معالطہ
Fallacy, pathetic	جز باتی معالطہ
Fallacy, reductive	تجھوٹی معالطہ
Fallacy, semilogical	نیم منطقی معالطہ
Fallacy, inductionem	نقضیاتی معالطہ
Fallacy of accent	تاکیدی معالطہ
Fallacy of accident	معالطہ اطلاق خاص
Fallacy of accident converse	معالطہ اطلاق عام

Fallacy of accident direct	پلا واسطہ مخالفت اطلائی خاص
Fallacy affirming the consequent	مخالفت اثبات موخر
Fallacy ambiguous major	مخالفت بہیم کبری
Fallacy ambiguous middle	مخالفت بہیم اوسط
Fallacy ambiguous minor	مخالفت بہیم صغیری
Fallacy amphiboly	مخالفت التباس کلام
Fallacy begging the question	مخالفت ادعائے مرعا
Fallacy circular argument	مخالفت دلیل دوری
Fallacy co-effects	مخالفت ہم معلوی
Fallacy co-existence	مخالفت ہم موجودی
Fallacy composition	مخالفت ترکیب
Fallacy consequent	مخالفت موخر
Fallacy denying the antecedent	مخالفت انکار مقدم
Fallacy of absolute priority	مخالفت مقدم مطلق
Fallacy of bysteron, proteron	مخالفت ترتیب محکرس
Fallacy of complex question	مخالفت سوال مرکب
Fallacy of division	مخالفت تقسیم
Fallacy of double question	درسوالی مخالفت
Fallacy of equivocation	مخالفت ابہام لفظی
Fallacy of exclusive linearity	مخالفت امتیازی خطیت
Fallacy of exclusive particularity	مخالفت اختصاص مطلق
Fallacy of existential assumption	مخالفت مفرد پس و وجودی
Fallacy of false cause	مخالفت ناصواب علت
Fallacy of false conclusion	مخالفت نتیجہ باطل
Fallacy of false disjunction	مخالفت انفصال باطل
Fallacy of false opposition	مخالفت مخالفت باطل

Fallacy of figure of speech	متالط صفت کلام
Fallacy of four terms	متالط حدود رابہ
Fallacy of ignoratio (eleclu)	متالط جہل مارلوں
Fallacy of illicit major	متالط نارواحد اکبر
Fallacy of illicit minor	متالط نارواحد اصغر
Fallacy of initial prediction	متالط نجول اولین
Fallacy of irrelevance	متالط غیر مناسب
Fallacy of many questions	چندسوالی متالط
Fallacy of negative conditions	متالط شرائط منفی
Fallacy of negative promises	متالط تقدیمات منفی
Fallacy of noncausa, procausa	متالط تسبیب غیر سبب
Fallacy of non sequitor	متالط دریل بے تعلق
Fallacy of petitio principii	متالط مفروض ناردا
Fallacy of reduction	متالط تحول
Fallacy of sceundum quid	متالط اطلاق ناردا
Fallacy of selected instances	متالط امثال منتخب
Fallacy of simple location	متالط تعین مقام آسان - متالط مقام آسان
Fallacy of simplism	متالط سہل پسندی
Fallacy of single condition	متالط شرط جزوی
Fallacy of succession	متالط توالی
Fallacy of undisturbed middle	متالط غیر منقسم
Fallacy of unproved hypothesis	متالط مفروضہ غیر ثابت
Fallibilism	نظریہ امکان خطا
False testimony	چھوٹی شہارت
Family-group therapy	خاندان گروپ علاج
Family-line hypothesis	فرضیہ موروثیت
Family therapy	علاج خاندان

Fanaticism	مجوناز عقیدت۔ غلو
Fatalism	تقریر پستی۔ تقریریت
Fatigue	تحکن
Fatiguable type	تکان پذیر طاپ
Fatigue syndrome	مجموعہ علامات تکان
Favourable	سازگار
Fearlessness	بے خوفی
Fear reaction	خوف رد عمل
Fechner helmholtz law	اصول فشر ہلمھولٹر
Fechner's Law	اصول فشر
Fechner's paradox	نشتری تضاد ظاہری
Fecundity of pleasure	بارادری لذت (بعید از عقل)
Feeble-mindedness	ضعیف العقلی
Feed-back	بازرسانی
Feeling	احساس
Feeling-continuum	متاثر تسلسل
Feeling tone	کیفیت احساس
Felapton	فلیپن
Feliciafic	نشاط انگیز
Fellow	رفیق - رکن - نیلر
Fellowship	رکنیت - فیلیو شپ
Feminism	نسایت
Fere phenomenon	نفسی بر قی جوانی عمل
Ferio	نیری یو
Ferison	نیری زن
Ferrier's experiment	نیری کا اختیار
Fesapo	فیساپو

Festino	فیس ٹینو
Fetish	مرجع پرستش۔ مرجع آموزوں و سلیمانیہ: لذت جنسی۔ فیش
Fetishism	فیش بازی۔ فیش پرستی
Feud	دیرینہ نزاع
Feudalism	جاگیرداری۔ جاگیرداری نظام
Fever therapy	علاج بذریعہ بخار
Fibre	ریشہ۔ باریک نس
Fibre, post-ganglionic	پس عصبی گچاریشہ
Fibre, pre-ganglionic	پیش عصبی گچاریشہ
Fibre, commissural	اتصالی ریشہ
Fibre, projection	برآمد ریشہ
Fibril	ریٹک
Fiction, methodological	سہما جاتی نقش
Fictionalism (fictionism)	اسانیت
Fideism	اعتقادیت
Fiduciary limits	حدود معمدی
Field-data collection	فرابھی ساحتی معطیات
Field review	ساحتی جائزہ
Field structure	مساحتی سیست
Field trip	ساحتی دورہ
Field work	ساحتی کام۔ فیلڈ روک
Figural after-effect	شکلی اثر مابعد
Figure	شکل
Figure, imperfect	شکل ناقص۔ شکل غیر کامل
Figure, nonsense	یہ معنی شکل
Figure, perfect	شکل کامل
Figure-drawing analysis	شکل کشی تجزیہ

Figure-ground relationship	رشته شکل و پی منظر
Filament	رسیشہ۔
Filial behaviour	اولادانہ کردار
Filial regression	رجعت یہ والدین
Final causes, doctrine of	نظریہ عمل غایی،
Finalism	غاہقیت
Finality	قطعیت۔ غایت
Finger ergograph	انگشت نعل نگار
Finger spelling	انگشتی بجا
Finite	غیر مطلق
Finitism	محدودیت
Fission	انشقاق خلیہ
Fissure	درز
Fissure	دراز
Fissure, lateral	طرق دراز
Fissure, longitudinal	طولی دراز
Fissure of rolando	روولینڈو دراز
Fissure of sylvius	سلویس دراز
Fit	موزونی۔ درودہ
Fittingness, aesthetic	جالیاتی موزونیت
Fittingness, moral	اخلاقی موزونیت
Fittingness, natural	فطري موزونیت
Five point scale	پنج درجی چیانہ
Fixation	ترکیز۔ انبگار
Fixation pause	توقف نظر
Fixation point	نقطہ ترکیز نظر
Fixed alternative question	تعیین مبارل سوال

Fixed interval schedule	متین و فقره شیدول
Fixed-ratio schedule	متین نسبت شیدول
Finitude	غیر مطلقیت محدودیت
Flat picture	سپاٹ تصور
Flavour	خوشبوذالقرة - مخصوص مزا
Flexibility	لپک
Flexible	لپک دار
Flexion	خمیدگی خم - (جرذا)
Flexion reflex	اضطراری خم
Flexor	عضله خمیده
Flicker	لرزش - نیمه لب
Flight simulator	پرواز نقل آله
Floating period schedule	غیر متین عرصه شیدول
Flower-spray ending	فورة خاسرا
Flux	سیلان
Focus	ماسکن
Foli deux	دو هم مشترک
Folklore	نوک کنقا
Folk ways	نوک ریت
Follicle-stimulating hormone	محرك با هارمون
Foot candle	شمی فوت
Forced choice checklist	محدود انتخاب پرتابل فهرست
Forced choice rating	محدود انتخاب درجه پیامان
Forebrain	پیش دلمع
Fore consciousness	پیش رانی
Foreman	فورمن
Fore ordination	نمودربت

Fore-sight	پیش بینی
Forgetfulness	فراموشی
Forgetting	نسایان
Forgetting, retroactive theory of	نظریہ پس کار فراموشی
Forgetting, selective	اتخابی فراموشی
Form	صورت ہیئت
Form, accidental	اتفاقی صورت
Form, logical	منطقی صورت
Form, metaphysical	ما بعد اطیبی صورت
Form, non-standard	غیر میداری صورت
Form, standard	معیاری صورت
Formal consistency	صردی توانی
Formal ethics	صوری اخلاقیات
Formal goodness	صوری نیگی
Formal ground	صوری بنیاد
Formal logic	صوری منطق
Formalism	صوریت
Formalization	صردیانہ
Fromal steps	رسی قدر / رسی مدارج
Formal studies	با ضابطہ تعلیم
Form level	معیار جماعت
Form master	استار جماعت
Form quality	صوری صفت
Form score'	شمار جماعت
Fortitude	استقامت
Fourier's law	اصول فیوریر
Fractionation method	کسری طریقہ

Fragmentation	تفطیع
Freedom, negative	منفی اختیار
Freedom of thought	آزادی خیال
Freedom of will	آزادی اختیار-خوداختیاری
Free floating anxiety	غیرمتین تشویش
Free floating fear	غیرمتین خوف
Free nerve-ending	سلق عصبی سرا
Freeship	معانی فیس-فیس معانی
Frenzied anxiety	شوریده تشویش
Frenzy	شوریدگی
Frequency	رج تحریر
Frequency, normal	نارمل تحریر
Frequency, positive	مثبت تحریر
Frequency, value of	شمار تحریر
Frequency composition	تحریر تایلیف
Frequency hypothesis	تحریر فرضیہ
Frequency polygon	تحریری کثیر الاضلاع
Fresison	فری سیسون
Fright	هوں
Frigidity	سرد جنس
Frohlich's syndrome	فرولیش مجموعہ علامات
Frontal lobe	جبھی مدور لختہ
Frustrated	نامراد شکستہ خاطر
Frustration	احساس نامرادی
Frustration, aggression theory of	نظریہ نامرادی و بارجیت
Frust. t. tolerance	برداشت نامرادی

Frustration tolerance level	درجه برداشت نامراری
F-test	ایفت-تیست
Fugue	دوره خود فراموشی
Fugue, epileptic	مرگی دوره نیاپ
Fulfilment	تکمین- اتمام- ایفا
Fulguration	تجمل
Function	تفاصل- ذظیفه
Function, directive	ہدایتی و تلقیفی / تفاصل
Function, expressive	انہیاری تفاصل
Function, informative	اطلاعاتی تفاصل
Function, performative	کارگزاری تفاصل
Function, propositional	تضییقاتی تفاصل
Functional autonomy	خود مقصود تفاصل
Functional fixedness	تفاصل ترکیز
Functional integrity	تفاصل سالمیت
Functionalism	و تلقیفیت / تفاصلیت
Functional psychosis	تفاصل ججزن
Functional record system	عملی ریکارڈ سسٹم
Functional theory of right	تفاصل نظریہ حقوق
Fundamentalism	اساسیت
Fundamental principle	بنیادی اصول
Fundamental right	بنیادی حق
Fundamentum divixonis	بنائے تقسیم
Fundamentum relations	بنائے تعلق
Fused unit	محلوط اکائی
Fusion	امتراء
Fusion frequency	تحریر امتراء

G

Galvanometer	مکلوانومیٹر
Gamete	زراهم
Gang age	گروہی عمر
Ganglion	عصبی گنچا
Ganglion, sympathetic	تاسدی عصبی گنچا
Ganser's syndrome	گانسر سری مجموعہ علامت
Gargoylism	برہیق (خطقی)
Geist	روح ذہن
Gene	جین
Genealogy	نسبیات - نسبت نامہ
General adaptation syndrome	عام توازنی علامت
General evaluative set	عام قدر تینی رویہ / عام جائزاتی مجموعہ / عام جائزاتی سیست
Generalization	تعیین
Generalization, approximate	غیر قطعی تعیین
Generalization, empirical	تجربی تعیین
Generalization, established	سلسلہ تعیین
Generalization, hasty	حاجلانہ تعیین
Generalization, illicit	ناردا تعیین

Generalization, invariable	نیز متر تعمیم
Generalization, probable	اغلب تعمیم
Generalization, progressive	تدریجی تعمیم
Generalization, gradient	شرع نزولی تعمیم
Generalized	تعیینی
General paresis	ماکون اعصاب
Generic	کلی - متعلق جنس
Generosity	فیاضی
Genesis	ابتداء - نشان
Genetic	نشان
Genetic analysis	نشوی تجزیه
Genetic method	نشانی طریقہ
Genetic principle	نشوی اصول
Genetic theory	نشانی نظریہ
Genetic organization	تناصلی نظام
Genius	نیشن - چینیں
Genogenic factor	سلی عامل
Genotype	سلی ملاب
Genus	جنس قسم
Genus, proximate	جنس تربیت
Genus, remote	جنس بعید
Genus, sumnum	جنس اعلیٰ
Geriatrics	علاجیات پیری
Germ cell	ابتدائی نسلیہ
Gerontology	سالانہ پیری
Gestalt	گیٹسالٹ - پیست مجموعی
Gesture	اشارت

G factor	عموری عامل
Gifted	فطین
Gifts (Froebel's)	فریبیں مکملونے
Gifts occupation	فریبیں سامان مشغله
Gigantism	دیوبی پیکری
Given, the	معطیہ
Gland	غددوں
Gland, duct	تالی دار غددوں
Gland, ductless	بے تالی غددوں
Gland, endocrine	درافرازی غددوں
Gland, exocrine	برافرازی غددوں
Gland, lachrymal	اشکی غددوں
Gland, salivary	لہائی غددوں
Gland, sweat	عرقی غددوں
Globus hysteriosus	حلقی گولا (ہسٹریا کی ایک کیفیت)
Glossal	زبان کا
Glottis	نرم طلاق
Glove anesthesia	دست انہابے حسی
Glove paralysis	دست انہابے فاعل
Gnosiology	نظریہ صدور علم
Gnosis	عرفان
Gnosticism	عربانیت
Gnothi seanton	عرفان زات
Goal	مقصود
Goal, academic	تعلیمی مقصود / تعلیمی منزل
Goal, vocational	مقصود ملکی
Goal activity	مقصودی عمل

Goal directed	مقصودی - مقصود سکتی
Goal gradient	مقصودی شرایع فراز
God	خدا - الله
God realization	معرفت الهی
Godhead	خدا - الوہیت
Godliness	خداور و سنتی
Gonad	تو لیدی غدر ور
Good	خیر
Good, absolute	خیر مطلق
Goodness	خیر
Gordon personal inventory	گارڈن فرد شخصیت
Gordon personal profile	گارڈن شخصیت پروفائل
Gospel	بشارت علیسی - بشارت کلام رباني (انجیل)
Governing board	انتظامی بورڈ
Governing body	انتظامی مجلس
Gown	گاؤن
Grace	فضل الهی
Grace marks	رعايتی نشانات - رعايتی نمر
Gradation	درجہ بندی
Grade	درجہ
Grade pattern	وضع گرید
Grade point	گرید پوائنٹ
Grade standard approach	گرید معيار طرز نظر
Grading	درجہ بندی
Grandiose complex	وسم عظمت
Grandiosity	طمطراق
Grant	گرانٹ - امداد

Grant, capitation	امار بحسب تعداد
Grant, federal	وفاقی امداد- مرکزی امداد
Grant, foundation	فائزڈشن کی گرانٹ- اساسی امداد
Grant, monetary	مالی امداد
Grant-in-aid	سرکاری امداد
Graph	گراف- ترسیم
Graphic	زیسی
Graphic pursuit meter	ترسیمی تھاپت پہا
Graphic rating circle	ترسیمی درجہ بندی کا پیمانہ
Graphology	ترسیمات
Graphomania	خط خامہ فرسانی
Gregariousness	گروہ پسندی
Grey matter	خاکستری مادہ دماغ کا مغز
Grief	غم
Groove	لیکھ
Gross egoistic hedonism	کشف ذاتی لذتیت
Ground theory (of rightness)	صواب اساسی نظریہ
Group	مجموعہ- گروپ
Group, membership	مبری گروپ
Group, refrence	اصلی گروپ
Group affiliation	گروپ وابستگی
Group cohesiveness	گروپ یک جہتی
Group dynamics	گروپ حرکیات
Group factor theory	نظریہ تعداد عوامل
Group fragmentation	گروپ تفرقی
Group goal accessory	گروپ صفتی مقصود
Group-goal unique	گروپ منفرد مقصود

Group mind	ذہن اجتماع
Group psychotherapy	گروپ نفیاٹی علاج
Group selection	گروپ انتخاب
Group therapy, didactic	ناصیانہ گروپ علاج
Group therapy, in-spirational	خوبی گروپ علاج
Group will	اجتمائی ارادہ
Groups, peer	ہم سر گروپ / ہم عمر گروپ
Growing period	عہدہ نمو
Growth	نحو
Grotesque	غريب ال�یئت
Guidance	رسہنماي
Guidance, vocational	رہنمای پیشہ
Guidance centre	مرکز رہنمای
Guidance clinic	رسہنماي کلینیک
Guidance, home-room	کلاس روم رسہنماي
Guidance personnel	رسہنماي عمل
Guidance programme	رسہنماي پروگرام
Guidance project	لنسپور بررسہنماي
Guidance technique	رسہنماي تکنیک
Guilford Marten personnel inventory	گل فورڈ مارٹن عمل فرد
Guilt	اخلاقی جرم
Guilt, sense of	حس جرم
Guilt feeling	احساس جرم
Guilt neurosis	احساس گناہ اختلال

H

Habit	عادت
Habit formation	تشکیل عادت
Habit interference	خلل اندازی عادت
Habit facilitation	تسهیل عادت
Habituation	خوگری
Haecceity	تعین تقدیر
Haldane apparatus	هالدان سامان
Hallucination	وهم ادرارک
Hallucination, auditory	سمعی وهم ادرارک
Hallucination, justatory	ذائقی وهم ادرارک
Hallucination, kinesthetic	حرکی وهم ادرارک
Hallucination, olfactory	سمعی وهم ادرارک
Hallucination, visual	بصری وهم ادرارک
Hallucinogen	وهم ادرارک آفرین
Hallucinosis	مرعش وهم
Halo effect	ہالی تاثیر
Halo error	ہالی خطا
Halving method	طریقہ تقسیف
Hand book	ہندبوک

Hand tool dexterity test	او زار چاک دستی ٹیسٹ
Hand writing analysis	تجزیہ خط
Happiness	مسرت - سعادت
Harbison's typology	ہاربیسن ٹائپ بندی
Harmonics	علم آہنگ / مرتب آہنگ
Harmony, pre-established	ویش بنیتم آہنگی / مقدار ہم آہنگی
Hate	نفرت
Hazard, mental health	خطره ذہنی صحت
Hazard, occupational	خطره پیشہ
Headmaster	ہڈیڈ ماسٹر
Health, mental	ذہنی صحت
Health certificate	صحت سارٹ ٹیفیکٹ
Health service	ہیلپر سروس
Hearsay	سنی سنان
Heat spot	نقٹہ حس حرارت
Hebephrenia (Schizophrenia)	شدید انتشار نفس
Hedonic selection, law of	لذتی انتخاب کا اصول
Hedonic tone	لذتی کیفیت
Hedonism	لذتیت
Hedonism a priori synthetic	ترکیبی قبل تحریری لذتیت
Hedonism, individualistic	لذتیت ذات
Hedonism, universalistic	لذتیت کل
Hedonistic calculus	احصا لذتی
Hedonistic utilit-arianism	لذتی افواریت
Hegelianism	ہیگلیت۔ فلسفہ ہیگل
Hegelian left	یساری ہیگلی
Hegelian right	یمنی ہیگلی

Hegelian triad	سیگلکل تئیث
Hegnotheism	توحیدنا قص
Hematophobia	خوت خون
Hemiplegia	یک جانب فارج
Hemophobia	خوت خون
Hemorrhage, intracerebral	سیل الدم دمینی
Hemorrhage, petechial	سیل الدم جلدی
Herbartian steps	ہر برٹنی رسپن (مرٹے)
Herd instinct	جیلت غول پسندی
Herd	غول
Hereditary	ارثی
Hereditary potential	ارثی امکانی قوت
Heredity	توارث ارث
Hermaphrodite	دو جنس
Hermeneutics	علم تفسیر
Heroin addiction	ہیروین لٹ
Herring window	ہیزنگ درجہ
Heritage	میراث - دراثت
Heterization	تفرقی
Heterodoxy	غیر راسخ العقیدگی
Heterogeneity	اختلاف نوع - غیر کیسانی
Hetero-genous	غیر متجانس النوع - غیر کیسان
Hetero-genous grouping	غیر کیسان گروپ بندی
Heteronomy	غیر خود اختیاری
Heteronomy, state of	حالت تقدیردارا (ارادہ)
Heterosexual	درگ صبی۔ مختلف الجنس
Heterosexuality	درگ عجیبت

Heterotelic	دُوْرِنَاهَىٰ
Heterozygosis	معالطِ جَهْلِ مَرْوِل
Heuristic	اَكْشَان
Hibernation	سِرْمَانْشِى
Hierarchical	مَرْتَبِيٍّ - بِلْغَاظِ مَرْتَبَةٍ
Hierarchical structure	مَرْتَبِيٍّ سَاحَنْتَه
Hierarchy	نِظَامِ مَرَاتِبٍ
Highest good	خِيرِ عَالِيٍّ
High school	بَانِيٰ اَسْكُول
High school, bilateral	دُوْجَمَىٰ اَسْكُول
High school, recognized	تَسْلِيمَ شَدَهٍ بَانِيٰ اَسْكُول
High-tone deafness	اوْنَجَاهُورِ بَهْرَانِ
Hind sight	پِسْ بَيْنِ
Histamine	بَهْشَانِين
Histogenic factor	نِسْجِ آفْرِيدِيَّه عَامِل
Histogram	كَالِيٰ گُورَات
Historical determinism	تَارِيَخِي جَبْرِيت
Historical materialism	تَارِيَخِي مَادِيَت
Historical relativism	تَارِيَخِي تَبَيِّت - تَارِيَخِي اَفَانِيت
Historicism	تَارِيَخِيَّت
Hole screen	سُورَاخِ پَرَدَه
Holiday	بَحْثَىٰ - تعْطَيل
Holism	نظَريَّه كَلِيَّت
Holistic	فَجاَئِيٰ فَلَسْفَهُ كَلِيٰ (رَفْسِيَات)
Holyism	نظَريَّه قَدْرَ كَلِيٰ
Home contact report	كَهْرَابِطَرِ لَپُورَت
Homeostasis	بَازْ تَوازن

Home room	بوم روم
Home work	گھر کا کام - بوم ورک
Hominism	انسینت
Homoeomeries	مائل اجزاء اقسام
Homograph	ایم ہجا الفاظ
Homogeneity	اتحاد نزع - یکسانیت
Homogenous	یکسان
Homogenous grouping	متحال النوع گروپ بندی
Homo mensura	انسان معیار - انسان عیاری
Homotheism	سلک تشبیہ
Honour, code of	آداب شرافت
Hood	ہڈ - کلا
Hormic	مقصدی
Hormic theory	مقصدی ذریعہ
Hormone	ہارمون
Hormonic	ہم آہنگ
Horse shoe	نفل
Howthorne effect	ہا. ہوئرن اثر
Hue	کیفیت رنگ
Humaneness	در دندي - رحم دل
Human engineering	انسان مشین توفان
Humanism	سلک انسانیت
Humanism, epistemological	علمیاتی سلک انسانیت
Humanism, naturalistic	طبعی سلک انسانیت
Humanism, religious	مذہبی سلک انسانیت
Humanist	معتقد سلک انسانیت
Humanistic ethics	انسان مرکز اخلاقیات

Humanitarianism	الإنسان دوستي
Humanities	علوم الإنساني
Humour	مزاج - خلط
Humour rating quiz	مزانج پیما معمر
Hunger	بھوک
Huntington's chorea	ہن ٹنگ ٹن تشنج
Hybrid	دو فلام - دونلا
Hydrocephalic imbecile	استقاسار ناقص العقل
Hydrocephalus	استقاساري
Hydrocephalus, external	پيردي استقاساري
Hydrocephalus, inner	اندرودي استقاساري
Hydrophobia	خوف آب
Hydrotherapy	آب معالجه
Hylosis	مادي نفسی ہم رتویت
Hylosystemism	حرکی پیو لاریت
Hyloteism	ہیلولا پرستی
Hylozoism	نظریہ روحانیت مادہ
Hyperactive	بیش فعال
Hyper activity	بیش فعالی
Hyperalgesia	فرط درد حسی
Hyper-glycemia	خون شکر بیشی
Hyper-hydrosis	مفرط استقسا
Hyper-kinosis	بیش حرکتی
Hyper kinetic	بیش حرکت
Hyper phagia	ہوکا / جرع البقر
Hyper polarization	فرط تقطیب
Hyper sensitive	بیش حساس

Hyper tension	ازراط تناد
Hyper thyroidism	بیش در قیت
Hypnagogia	نیم خوابی
Hypnagogic	خواب آور
Hypno-analysis	تنویی تحلیل
Hypno genic	خواب آور
Hypnology	تنوییات
Hypno-regression	تنویی رجعت
Hypnosis	حالات تنویم
Hypnotic	تنویی
Hypnotism	تنویم
Hypochondria	مراثی ملاحت
Hypochondriasis	دہم ملاحت
Hypoglycemic	خون شکر کی کمی
Hypokinesis	کم حرکتی
Hypomania	خفیت جنونی ہیجان
Hypophysis	سست رقاری نشودنا
Hypoplasia	نمکارا۔ نمو کرنٹسکی
Hypostatization	جسم تصور
Hypothalamus	زیرین میدان اعصاب
Hypothesis	فرضیہ
Hypothesis, adequate	وابقی فرضیہ
Hypothesis, barren	بے نتیجہ مفروضہ۔ لامحصل مفروضہ
Hypothesis, descriptive	بیانی فرضیہ
Hypothesis, explanatory	توضیحی فرضیہ
Hypothesis, geocentric	ارضی مرکز فرضیہ
Hypothesis, gratuitous	بے بنیاد فرضیہ

Hypothesis, heliocentric	شمس مرکز فرضیه
Hypothesis, illegitimate	ناجائز فرضیه
Hypothesis, operational	عملی فرضیه
Hypothesis, provisional	عارضی فرضیه
Hypothesis, scientific	سائنسی فرضیه
Hypothesis, self contradictory	متناقض فرضیه
Hypothesis, superfluous	فشنری فرضیه
Hypothesis, transcendental	مادرانی فرضیه
Hypothesis, unproved	غیرثابت فرضیه
Hypothesis, working	رقیقی فرضیه
Hypothesis concerning agent	مفسر رضه متعلق ناصل
Hypothesis concerning collection	مفسر رضه متعلق عالات مجری
Hypothesis concerning law	مفسر رضه متعلق قانون
Hypothesis of cause	مفسر رضه علت
Hypothetical construct	فرضی تصوره
Hypothetical imperative	مشروط امر
Hypothetical dualism	مشروط شتریت
Hypothetical syllogism	مشروط قیاس
Hypothyroidism	کم هدایت - کم در قیمت
Hysteria	ہستریا
Hysterical	ہستریان

I

I	انا
Iconoclast	بیت شکن
Iconodulism	شیوه پرستی
Id	اڈ
Idea	تصویر میں (انقلاطی فلسفہ)
Idea, absolute	تصویر مطلق
Idea, abstract	مجرد تصویر
Idea, adventitious	خارجی تصویر
Idea, composite	مرکب تصویر
Idea, explanatory	توضیحی تصویر
Idea, fictitious	غیر حقیقی تصویر
Idea, fixed	سلط تصویر
Idea, general	عام تصویر
Idea, force	قرت تصویر
Idea, involuntary	غیر ارادی تصویر
Idea, innate	دہی تصویر - خلقی تصویر - پیدائشی تصویر
Idea, particular	محضی تصویر
Idea, passive	الفناگی تصویر
Idea, synthetic	ترکیبی تصویر

Idea, voluntary	ارادی تصور
Ideal(n)	مثالی تصور- نصب العین- آدرس
Idealism,	تصوریت - مثالیت
Idealism, axiological	قدری تصوریت
Idealism, cosmothetic	کوئن تصوریت
Idealism, critical	ستقیدی تصوریت
Idealism, dogmatic	ادغامی تصوریت
Idealism, epistemological	علمیاتی تصوریت
Idealism, formal	صوری تصوریت
Idealism, impersonalistic	لاشخصی تصوریت
Idealism, material	مادی تصوریت
Idealism, metaphysical	ما بعد الطبیعتی تصوریت
Idealism, monistic	وحدتی تصوریت
Idealism, objective	مفردی تصوریت
Idealism, personal	شخصی تصوریت
Idealism, personalistic	شخصیتی تصوریت
Idealism, phenomenal	منظہری تصوریت
Idealism, platonic	انقلابی تصوریت / مثالیت
Idealism, pluralistic	کثری تصوریت
Idealism, psychological	نفسیاتی تصوریت
Idealism, pure	تصوریت محن
Idealism, realistic	حقيقی تصوریت
Idealism, speculative	فخری تصوریت
Idealism, subjective	موضوی تصوریت
Idealism, teleological	غایاتی تصوریت
Idealism, theological	الہیاتی تصوریت
Idealism, transcendental	او، افاقت، ت

Idealism, voluntaristic	ارادتی تصوریت
Idealistic perfectionism	تصوری تکمیلیت
Idealistic value theory	تصوری نظریہ قدر
Idealization	مشابیانا
Ideal morality	مثالی اخلاق
Ideal reason	نسب العین عقل
Ideal utilitarianism	تصوری افراحت
Ideal self	مثالی ذات
Ideas of pure reason	تصورات عقل حضن
Ideas of reference	گمان ذکر خود
Ideas, transcendental	ماورائی تصورات
Ideational	تصوراتی
Ideation	عمل تصور
Ideatum	تصوره
Identical elements, theory of	نظریہ مائل عنصر
Identification	شناخت - تمثیل - تعیین
Identity	انفردیت - عینیت - ماثلت
Identity, law of	اصول عینیت
Identity, personal	عینیت ذات
Identity, pure	عینیت حضن
Identity in difference	ماثلت در اختلاف
Identity of self	عینیت ذات
Identity-philosophy	فلسفہ عدم تفرقی
Ideological	نظریاتی
Ideogenetic theory	نظریہ شعور زانی (تصدیق)
Ideogram	تصوره نگار
Ideology	نظریہ فکر و عمل

Ideomotor	تصدر حرکی
Ideomotor tendency	تصدر حرکی بر جهان
Idiocy	ماوذت العقل
Idiographic approach	فرمودنگ طرز نظر
Idiopathic epilepsy	خود زادی مرگی
Idiot	ماوذت العقل
idio savant	بے عقل ماہر کیف فن
Idiosyncracy	اصنام پرسستی
Idolatory	اذکر کی خصوصیت - انگوکھاں
Idols of the cave	تعصبات شخصی
Idols of the market	تعصبات رواجی
Idols of the theatre	تعصبات روایتی
Idols of the tribe	تعصبات قبائلی
Illative sense	حس استنباط
Illicit importance, fallacy of	منال الطاہریت ناردا
Illuminant stable colour	استقلال بصارت رنگ آزادش (رنگی رینگی روندی)
vision test	
Illusion	التباس
Illusion, Aristotles	التباس ارسطو
Illusion, associative	ایسلامی التباس
Illusion, geometrical	ہندسی التباس
Illusion, movement	التباس حرکت
Illusion, oculogyral	حرکت چشمی التباس
Illusion, optical	لبری التباس
Illusion, proof reading	پروف ریڈنگ التباس
Illusion, size-weight	التباس جسامت وزن
Illusion, transcendental	ماوراء التباس
Illusion, wundt	ونٹ التباس

Illusionism	التباسیت
Illusory	التباسی
Illustration	مثالی توضیح - تصویر
Illustrative material	توضیحی سامان - توضیحی موارد
Image	مثال
Image, auditory	سمیٰ مثال
Image, composite	مرکب مثال
Image, concrete	مقرر ان مثال
Image, eidetic	روشن مثال
Image, generic	کلی مثال
Image, hallucinatory	رہی مثال
Image, hypnagogic	نیم خوابی مثال
Image, optical	بصري مثال
Image, recurrent	تکراری مثال
Image, retinal	رینانی مثال
Image, sensory	حسی مثال
Image, suggestive	ایمانی مثال
Image, tectual	نسی مثال
Image, verbal	لفظی مثال
Imagery	تخیل - سلسلہ مثالات
Imagery, kinaesthetic	حرکی مثال
Imagery type	تخیلی ماض (را شخصی کا)
Imaginal type	تخیلی ماض
Imagination	تخیل
Imagination, creative	تخیلی تخلیقی تخلیق
Imagination, reproductive	اعادی تخلیقی
Imagism	مثالیت

Imago	مثالی تھاں
Imbecile	ناتقہنی العقل
Imbecility	ابلہن۔ ضعیفۃ العقل
Imitation	نقایی۔ نقل تقلید
Imitative value judgement	تقلیدی۔ قدری تصریح
Immanence	ساریت
Immanence philosophy	فلسفہ ساریت
Immanence transcendence	ساریتی الہ پرستی
Immanent theory	ساریت ماوراء رائیت
Immanent theism	ساریتی نظریہ
Immaterialism	نظریہ لامادرت
Immateriality	لامادرتی
Immaturity, reaction	بچکانہ رہ عمل
Immediacy	یہے داسطھی
Immoral	سوئے اخلاق۔ لا اخلاق
Immoralism	نظریہ نفی اخلاق۔ لا اخلاقیت
Immorality	سوئے اخلاقی۔ لا اخلاقی
Immortality	لانگانہت
Immortality, conditional	مشروط لانگانہت
Immutability	تغیر ناپذیری
Impact	اڑ
Impenetrability	غورنا پذیری
Imperative, assertorial	او عاقی امر
Imperative, idea (insistent)	انبری تصور
Imperishable	فنا ناپذیری
Impersonalism	لا شخصیت
Impersonation	تلیس

Implicans	مدلول
Implicate	دلالت کرنا
Implication	دلالت - اضمار
Implication, causal	علی دلالت
Implication, decisional	الفصایلی دلالت
Implication, definitional	تعریفی دلالت
Implication, formal	صوری دلالت
Implication, logical	منطقی دلالت
Implication, material	مادی دلالت
Implication, necessary	وجوبی دلالت
Implication, strict	قطعی دلالت
Implicative	دلاتی
Implicit	معنیر - مقدار
Import	معنیوم - معنویت
Impossibility	محالیت - عدم امکان
Impression	ارتسام
Impressionism	تاثریت
Impressionistic criticism	سازشی تئوری
Imprint	نقش
Imprinting	نقش گیری
Improbability	لا اغلبیت - بعید از قیاس صورت
Improbable	بعید از قیاس - غیر اغلب
Improvement	ترقی - پیشری
Impulse	اضطراری تحریک
Impulse, maternal	مادری تحریک - متأ
Impulse, nervous	اعصابی تحریک
Impulse, neural	عصبي تحریک

Impulse-counter	تحریک شمار
Impulsive	اضطراری
Impunitive reaction	بے سزا رد عمل
Incantation	افسونہ مہنتر
Incarnation	تجسم - او تار
Incentive	خارجی حکم
Incentive wage plan	ترغیبی اجرت منصوبہ
Incest	مباشرت محبتات - ازدواج محبتات
Inclination	میلان
Inclusiveness	جامعیت
Incoherence	بے ربطی
Incomprehensible	ناقابل فہم
Inconceivable	ناقابل تصور
Inconsistency	عدم ترافت
Inconsistent	غیر متوافق
Incoordination	عدم تنسیق
Incorporeal	لا جسمی
Incorruptible	فسادنا پذیر
Incubation period	خنی نور عرصہ
Incubus	کابوس
Indefinable, logical	ناقابل تعریف منطقی
Indestructible	غیر تخریب ناپذیر
Indeterminacy, principle of	اصول عدم تعین
Indeterminate	غیر متعین
Indeterminate duty	غیر متعین فرض
Indeterminism	لا جبریت
Indeterminism, casual	علی لا جبریت

Index

Indifference	اشاریہ الاتعلقی
Indifference point	نقطہ عبوری
Indirection	با الواسط ایما
Indirect reduction	با الواسط تحول
Indirect teaching	با الواسط تدریس
Indirect (=Peripheral) vision	حاشیائی بصارت
Indiscernibles principle of (Identity of)	اصول عینیت غیر ممکن
Indispensable condition	ناگزیر شرط
Individual	فرد-انفاردی
Individual difference	انفاردی فرق
Individual class	فردی صفت
Individual constant	انفاردی مستقل
Individual curriculum	انفاردی نصاب
Individual good	شخصی خیر
Individual instruction	انفاردی تعلیم
Individual inventory service	شخصی فرد معلومات سروس
Individualism	نظریہ فردیت
Individualism, new	جدید نظریہ فردیت
Individualist	فردیت پسند
Individuality	انفاردیت
Individual measure	انفاردی ناب
Individual progress plan	انفاردی ترقی منصوبہ
Individual promotion	انفاردی ترقی
Individual psychograph	انفاردی سائیکلو گراف
Individual variable	انفاردی متغیرہ
Individuation	تفرد

Individuation, principle of	اصول تفرد
Indoctrination	نظریاتی تلقین
Indoctrination training	نظریاتی تلقین ٹریننگ
Indolence	کاہلی سستی
Induction	استقرائی منطقی امارہ
Induction, approximate	تخمینی استقراء
Induction, complete	استقرائے تمام
Induction, conditions of	شرطی استقراء
Induction, direct	بلاؤاسطہ استقراء
Induction, enumerative	شماری استقراء
Induction, grounds of	بنایائے استقراء
Induction, incomplete	استقراء فیر مکمل
Induction, mathematical	ریاضیاتی استقراء
Induction, paradox of	ظاہری تضاد استقراء
Induction, perfect	کامل استقراء
Induction, scientific	سائنسی استقراء
Induction, successive	متوالی استقراء
Induction, unscientific	غیر سائنسی استقراء
Induction by colligation of facts	استقراء بر بنائے جمع واقعات
Induction by complete enumeration	استقراء بر بنائے شمارنامہ
Induction by parity of reasoning	استقراء بر بنائے مائلت استدلال
Induction by simple numeration	استقراء بر بنائے شمار معرفی
Induction, consilience of	ہم پتیجہ کی استقراء
Inductive	استقرائی
Inductive causality	استقرائی علیت
Inductive enquiry	استقرائی تحقیق

Inductive leap	استقرائی جست
Indulgence stage	لذت اندر وی مرحلہ
Industrial fatigue	صنعتی تکان
Industry	صنعت
Ineffable	ناقابل بیان
Inequality symbol	عدم مساوات علامت
Inert (Inertia)	بے تغیر۔ جامد
Inertia	استقرار۔ جمود
Inexpressible	ناقابل اظہار
Infancy	طفولیت
Infant debility	طفلی ناتوانی
Infantile	طفلانہ
Infantile sexuality	طفولیتی جنسیت
Infantilism	طفلیت
Infantilism, sexual	جنسی طفليت
Inference	استنباط
Inference, analogical	تمثیل استنباط
Inference, immediate	پلا واسط استنباط
Inference, mediate	بالواسط استنباط
Inference by added determinants	استنباط یہ تعینات مزید
Inference by complex conception	استنباط بطور مركب
Inference by converse relation	استنباط بے اضافت ممکوس
Inferiority feeling	استنباط بے علاقہ ممکوس
Inferior species	احساس بکتری
Infinity	نوع اسفل
Information	لامحدودیت۔ لامحدود
	اطلاع۔ معلومات

Information flow	سیلان معلومات
Information processing	ترتیب معلومات
Infringement of rights	دست اندازی در حقوق
Ingredient	جزء و ترکیبی
Ingression	تغییق اشتراک
In-group-choice	در رون گروه انتخاب
Inhalation	در رون تنفس
Inherence	لزوم ذاتی
Inherent	لازمہ ذات
Inheritance	ورثہ - میراث
Inheritance, biparental	والدی میراث
Inherited	موروثی
Inhibition	بندش - اظہار بستگی
Inhibition, autogenic	خود رزا اظہار بستگی
Inhibition, conditioned	ساخته سندش
Inhibition, neurotic	عصیانی اظہار بستگی
Inhibition, preactive	پیش کاری بندش
Inhibition, reactive	جوایی تعطیل
Inhibition, reciprocal	روط رفہ اظہار بستگی
Inhibition, retroactive	پس کاری بندش رعایت
Initiating structure	آغازی ساخت
Initiation	آغاز - رسکی واصلہ
Injunction	تاکید - حکم امنی
Innatism	خلقت
inner controls	داخلی قبود
Innervation	عصیانی حرکیک
Innervation, asynchronous	ناهم و قلت عصیانی حرکیک

Innervation, reciprocal	روطرنیہ عصبی تحریک
Innervation, synchronous	ہم وقت عصبی تحریک
Inquisition	احتساب
Inscrutable	ما درائے فہم
Insensibility	بے حسی
Inservice training	دوران ملازمت ٹریننگ
Insolubilia (Pl)	لا جواب سوالات
Insomnia	پلے خوابی
Inspection	معاشرتیہ
Inspectionism	جنہی سرق دید
Inspector	انسپکٹر
Inspiration	فیضان
Installation	تنصیب
Instance	موقعہ۔ مثال۔ وقوع
Instance, crucial	فیصلہ کن وقوع
Instance, general	عام مثال
Instance, negative	منفی مثال
Instance, particualr	خصوصی مثال
Instance, neglect of	نظر اندازی امثال
Instance, non-observation of	عدم مشاهدہ امثال
Instance, sorting of	قسم دار انتخاب امثال
Instantiation	مثال دہی
Instinct	جلبت
Instinct, acquisitive	حصوی جبلت۔ جبلت حصول اشیا
Instinct, death	جلبت مرگ
Instinct, laughter	جلبت خنده
Instinct, life	جلبت حیات

Instinct, parental	مادری پدری جلت
Instinct, religious	نرمی جلت
Instinct, sexual	جنسی جلت
Instinct, social	سماجی جلت
Instinct maturation	پختگی جلت
Instinctive action	جلی فعل
Instinctive behaviour	جلی کردار
Instinctive morality	جلی اخلاق
Instinctual fusion	جلی امتراد
Institute	ادارہ - انسٹی ٹیوٹ
Institute, educational	تعلیمی ادارہ
Institute, industrial	صنعتی ادارہ
Institute, teachers	ادارہ تربیت معلمان
Institute, workers	کورس برائے مزدوروں یا کامگاران
Institute of higher learning	ادارہ عالی تعلیم
Institute of technology	ادارہ علم صنعت
Institution	ادارہ
Institution, endowed	وقوفی ادارہ
Institution, public	عمومی یا پبلک ادارہ
Institution, social	سماجی ادارہ
Institution, state	سرکاری ادارہ
Institution, frustration	ادارتی احساس نامرادی
Institutionalization	اداریاتا
Instruction, denominational	فرقہ واری تعلیم
Instruction, mutual	یا ہمی تعلیم
Instructional contact	تعلیمی رابطہ
Instructional planning	تعلیمی منصوبہ بندی

Instruction, programmed	پروگرام بند تعلیم
Instruction material, programmed	پروگرام بند تعلم سامان
Instructor	تربیت کار
Instructor, physical	جسمانی تربیت کار
Instrumental error	آلائی خطا
Instrumental theory	آلائی نظریہ
Instrumentalism	آلائیت
Insubordination	حکم عدولی
Insulation	خارج بندی - خوبل بندی
Insulin coma therapy	انسولین سکته علاج
Insulin shock therapy	انسولین صدمہ علاج
Integrated personality	مربوط شخصیت
Integration	تکمیل کیک جمیقی ارتباط
Integrity	سامیلت
Intellect	خرو
Intellectual	دانش ور
Intellectual aging	ذہنی صنیفی
Intellectualism	دانش دری خردیت
Intellectualization	معقول گری
Intellectualized	معقول گشتہ
Intellectus agens	عقل فعال
Intelligence	ذہانت
Intelligence, biological	حیاتیاتی ذہانت
Intelligence, creative	تکلیفی ذہانت
Intelligence, factor theory of	نظریہ خواص ذہانت
Intelligence, native	خلقتی ذہانت
Intelligence, social	سماجی ذہانت

Intelligence, superior	برتر ذہانت
Intelligence, two factor theory of	دو عنصری نظریہ ذہانت
Intelligence quotient (I.Q)	تدریزہانت
Intelligence ratio(I.R.)	نسبت ذہانت
Intelligence scale	پیمانہ ذہانت
Intelligence test	ذہانت کی جانش
Intelligible	قابل تفہم
Intelligible species	نو معلوم
Intemperance	بے احتدالی
Intensity	شدت
Intensity of pleasure	شدت لذت
Intention	نیت - تصد
Intention, conscious	شعوری تصد - شعوری نیت
Intention, direct	بلاراستہ تصد
Intention, formal	صوری نیت
Intention, immediate	قریبی نیت
Intention, indirect	بالاراستہ نیت
Intention, inner	اندرونی نیت
Intention, material	اصلی نیت
Intention, outer	ظاہری نیت
Intention, remote	بعید نیت
Intention, unconscious	لا شعوری نیت
Intentional	قصدی
Intentionality	و لالٹ درائی (فلسفہ) بد جان ارادی (رنگیات)
Interaction	تعامل
Interactionism	تعاملیت
Interbrain	درمیانی رماغ

Intercourse	معاملت
Interdependence	انتمار با همی
Interest	دلچی- شرق
Interest, acquired	التسابی دلچی
Interest group	سهم شرق گروپ
Interest inventory	دلچی- فرو
Interest pattern	وضع شرق
Interest theory	نظریه شرق
Interference	مداخلت - مخل اندازی
Interference theory	نظریه مخل اندازی
Inter-individual	میں الافراد
Inter-individual difference	بین الافراد فرق
Interjectionism	نظریه نجایی (رسانیات)
Intermittance	بالوقوف قوع
Intermittance reinforcement	بالوقوف تقویت
Internal frustration	داخلی احساس نامرادی
Internalism	دروینیت
Internal secretion	اندر ون افراز
Internship phase	کار آموزی دور
Intern student (internee)	کار آموز طالب علم
Interoceptive	درآخذی
Interoceptor	درآخذ
Interpenetration	تراخی
Interpretative therapy	تبییری علاج
Interquartile range	بین ربعی حیط
Intersection	تقاطع
Intersegmental arc	بین قطعات قوس

Inter subjective	میں انسفوس۔ میں المفاسی
Inter subjectivity	بین ذرات رالطہ
Intertone	در میانی سر
Interval	وقفہ
Interval scale	مساوی وقفہ پیمانہ
Intervening	حائل ہدایانی
Interview	انٹرو یو
Interview, close ended	متعین جواب انٹرو یو
Interview, counselling	صلاح کاری انٹرو یو
Interview, depth	عین انٹرو یو
Interview, diagnostic	تشخیصی انٹرو یو
Interview, directed	متین انٹرو یو
Interview, exit	رخصتی انٹرو یو
Interview, group	گروپ انٹرو یو
Interview, initial	ابتدائی انٹرو یو
Interview, open ended	غیر متین جواب انٹرو یو
Interview, patterned	وضع بند انٹرو یو
Interview, standardized	سیکار بند انٹرو یو
Interview, stress	امضار انگیز انٹرو یو
Interview, structured	ساختہ انٹرو یو
Interview, tell and listen	کہو۔ سنو انٹرو یو
Interview, Therapeutic	علیجی انٹرو یو
Interview, undirected	غیر متین انٹرو یو
Interview, unstructured	نا ساختہ انٹرو یو
Interview, aids	اہمادی سامان انٹرو یو
Interview, schedule	انٹرو یو شیدول
Interview, therapy	انٹرو یو علاج

Interviewee	انٹرویوئرینے والا
Intolerance	عدم برداشت - نارداواری
Intracerebral process	درون دماغ عمل
Intractability	اصلاح ناپذیری
Intra individual difference	فی الفرد فرقہ
Intramural athletics	درون مدرسہ یا مدرسی کھیل
Intransitive	غیر متعددی
Intra-ordinal law	درون سلسلہ قانون
Intra-organic (factor)	درون عضوی عامل
Intrapsychic conflict	درون نفسی کشاکش
Intrasensory	درون حسی
Intrinsic	ذاتی
Intrinsic quality	ذاتی صفت
Introduction	تھارت - تمهید
Introjection	انجذاب
Intropunitive reaction	خود تقریری ررععل
Introspection	مشاہدہ باطن
Introspectionism	نظریہ مشاہدہ باطن
Introversion	درون بینی
Introvert	درون بین
Intuition	وجدان
Intuition, general	عمومی وجدان
Intuition, individual	افرادی وجدان
Intuition, ostensible	ظاہری وجدان
Intuition, universal	کلی وجدان
Intutional utilitarianism	وجدانی افماریت
Intuitionism	نظریہ وجدانیت

Intuitionism, ethical	اخلاقیاتی وجودانیت
Intuitionism, individual	افرادی وجودانیت
Intuitionistic hedonism	وجودانی لذتیت
Intuitive	وجودانی
Invariable	غیرمتغیر
Invariable concomitance	غیر متغیر هم و قرعی
Inventory	فرد (فهرست)
Inventory, adjustment	فرد مطابقت
Inventory, diagnostic	شخصی فرد
Inventory, multiphasic	کشیده بودن فرد
Inventory, omnibus personality	مجموعی شخصیت فرد
Inventory, personality	شخصیت فرد
Inventory, self rating	خود پردازی فرد
Inventory, vocational interest	دلچسپی پیشه فرد
Inverse	معکوس - مغلوب
Inverse ratio	نسبت معکوس
Inversion	تقلیب
Inversion, complete	تقلیب کلی
Inversion, partial	جزئی تقلیب
Inverted	منقلب
Investigation	تفصیل
Investigatory reflex	تفصیلی انتظاری
Invigilator	نگران
Inviolability	عدول ناپذیری
Involuntary action	غير ارادی عمل
Involution	التفاق - نوبرگشتنی
Involutional psychotic reaction	رجعي جنبني روانی

Ipse dixit	دعویٰ بے دلیل
Iris	پرودھ چشم
Irony , socratic	سقراط طنز
Irradiation, neural	نشعر عصبی
Irrational	غیر عقلی
Irrationalism	لاعقلیت
Irreciprocal conduct	یک طرفہ ایصال
Irrelevent conclusion, fallacy of	منالہ غیر متعلق شیوه
Irreligion	لامذہ بہبیت
Irreversibility	تقلیب ناپذیری
Irritability	برائی یعنیگی
Iscemia	مقامی نقصدم
"Is"-judgement	مہست تقدیمی
Isolate	منقطع
Isolation	علاحدگی - انقطاع
Isolation method	طریقہ علاحدگی
Isomorphism	زدفرم مطابقت ساخت
Item, forced choice	جبری انتخاب مر
Item analysis	تجزیی مرات

J

Jacksonian epilepsy	جیکسین مرگی
Jackson's Law	جکسون قانون
James Lange theory	جیمز لانگ نظریہ
Janitor	دربان
Jaundice	یرقان
Jealousy	حدر، رشک - رقبات
Job, analysis	تحلیل کار
Job, non-production	غیر پیداواری کام
Job, production	پیداواری کام
Job break-down	تفصیل کار
Job-classification	صفت پندری کار
Job description checklist	کار تو صفحی نشان اندازی فہرست
Job efficiency	خوش اسلوبی کار
Job enlargement	توسیع کار
Job grading	درجہ بندی کار
Job hazard	خطروہ کار
Job psychograph	کار سائیکو گراف
Job re-assignment	باز تفویض کار
Job-replica	نقل کار

Job requirements	مطلوبات کار
Job rotation	کارگردی
Job sample	نمودن کار
Job satisfaction	کارآسودگی
Job specification	تخصیص کار
Job simplification	تسهیل کار
Judgment	تصدیق
Judgment, affective	نمایشی تصدیق
Judgment, analytic	تجزیاتی تصدیق
Judgment, apodeictic	برکتی تصدیق
Judgment, appreciative	توصیفی تصدیق
Judgment, assertoric	ادعائی تصدیق
Judgment, categorical	قطعی تصدیق
Judgment, collective	اجماعی تصدیق
Judgment, conceptual	تصویراتی تصدیق
Judgment, difinitory	تفسیری تصدیق
Judgment, enumerative	شمارهایی تصدیق
Judgment, essential	ماہیتی تصدیق
Judgment, explicative	توضیحی تصدیق
Judgment, generic	تصدیق یا جنس
Judgment, hypothetical	مفروضی تصدیق
Judgment, observational	مشاهداتی تصدیق
Judgment, perceptual	اوراقی تصدیق
Judgment, problematic	احتمالی تصدیق
Judgment, infinite	غیر محدود تصدیق
Judgment, limitative	حدیدی تصدیق
Judgment, singular	منفرد تصدیق

Judgment, supra-logical	فوق مسطقی تصریح
Judgment of facts	واقعی تصریح
Judgment of taste	ذوقی تصریح
Judgment of value	قدرتی تصریح
Jural ethics	قاوی اخلاقیات
Jurisdictional dispute	نزاع دائرہ اختیار
Just noticeable difference	محض قابل مشاهدہ فرق
Justice	عدل
Justification	تجییہ جواز
Juvenile (adj)	نوجوانی
Juvenile(n)	نوجوانی (رکا)۔ نوجوان کا۔ نوجوان
Juvenile delinquent	نوجوان بدرہ
Juvenile delinquency	نوجوان بدرہ۔ نوجوانوں کی بدرہ
Juvenile paresis	نوجوانی کا فائج

K

Kantianism	سلک کانت
Kathenotheism (henotheism)	عقیدہ معبود اعظم
Keely cure	کیلی علاج
Ketogenic diet	کیتون زانزا
Kilogrammeter	کلو گرام پیش
Kindergarten	کنڈر کارتن
Kinesiology	علم حرکت
Kinesis	حرکت
Kinesthesia	حس حرکت
Kinetic energy	حرکی توانی
Kingdom of ends	اتلم مقاصد
Kingdom of God	ملکت ربانی
Kingdom of heaven	ملکت آسمانی
Kleptomania	خبلسرقة
Kline felter's syndrome	کلین فلٹر مجموعہ ملائات
Knee jerk (reflex)	خنزا اضطرابی
Knower	عالم
Knowledge	علم
Knowledge, adequate	کافی علم

Knowledge, apodeictic	برهانی علم
Knowledge, assertoric	ادعائی علم
Knowledge, categorical	قطیعی علم
Knowledge, clear	واضح علم
Knowledge, confused	شوابیده علم
Knowledge, direct	براه راست علم
Knowledge, direct theory of	نظریہ وقت بلا واسطہ
Knowledge, distinct	میزبانی علم
Knowledge, immediate	بلا واسطہ علم
Knowledge, inadequate	ناکافی علم
Knowledge, indirect	با واسطہ علم
Knowledge, mediate	منقذ علم
Knowledge, negative	بیسم علم
Knowledge, obscure	شبست علم
Knowledge, positive	اچھائی علم
Knowledge, problematic	حسی علم
Knowledge, sensitive	علائمی علم
Knowledge, symbolic	عملیات - نظریہ علم
Knowledge, theory of	علم بر بناء شناسانی
Knowledge by acquaintance	علم بر بناء بیان
Knowledge by description	استنباطی علم
Knowledge by inference	وجہائی علم
Knowledge by intuition	ادرائی علم
Knowledge by perception	کوئٹھ پر سوت روٹر
Koerth pursuit rotor	کرسومول
Komsomol	کارساکوت جنون
Korsakoff's psychosis	

Korsokoff syndrome

کارساکوف مجموعه علایمات

Kuder preference record

کوڈر ترجیع رکارڈ

Kurtosis

کمیا بیشی قسمی خط شکری

Kymograph

کیموجراف

L

Lability	لتوں، عدم استقلال
Laboratory method	معلم طریقہ
Laboratory observation	معلم مشاہدہ
Labour cost	مزدوری لائگت
Labour grades	مزدوری طاریج
Labour management bargaining	مزدور انتظامیہ کو دا بازی
Labour movement	مزدور تحریک
Labour reserves	رزرو مزدور
Labour therapy	محنت طاریج
Labyrinth	کان چکر۔ کان کا اندر ونی چکر
Lactation	رضاعت
Laissez faire, principle of	اصول عدم مداخلت
Lalling	لیانا را لام کا کیشرا استھان رکے بجائے قوم بولنا)
Lamarckianism (Lamarckism)	لامارکیت
Language, protocol	اساسی تحریر
Language laboratory	سانی معلم
Language symbols	سانی علامات
Langour	کسل
Lapse	فرودگذشت

Larynx	حنجره
Lassitude	شستی
Late adolescent phase	نوبالقی دور آخرا
Latency period	عرضه خوابیدگی بعس
Latent learning	آموزش خفی
Lateral transfer	طرنی انتقال آموزش
Latitudinarianism	ازاد مشربی
Law	قانون
Law, associative	متلازم قانون
Law, derivative	مشتق قانون
Law, descriptive	بیانیه قانون
Law, empirical	تجربی قانون
Law, indeducible	ناقابل استخراج قانون
Law, invariable	غیر متغیر قانون
Law, normative	معیاری قانون
Law, numerical	عددی قانون
Law, primary	اولین قانون
Law, psycho-physical	نفسی طبیعی قانون
Law, scientific	سائنسی قانون
Law, secondary	ثانوی قانون
Law, ultimate	نهایت قانون
Law of belongingness	قانون تعلن
Law of coexistence	قانون هم وجودیت
Law of elimination	قانون اخراج
Law of effect	قانون اثر
Law of exercise	قانون مشت
Law of frequency	قانون تکریر

Law of isolation	قانون علاحدگی
Law of recency	قانون قرب زبانی
Law of primacy	قانون تقدیم
Law of proximity	قانون تقریب
Law of Readiness	قانون آمادگی
Law of statistical averages	قانون سماریاتی اوسط
Law of succession	قانون توانی
Law of sufficient reason	قانون سبب کافی
Law of thought	قانون نکر
Layman	عام آدمی
Lay off	کار موقوفی
Leader-follower relation	قائد پیرو تعلق
Leadership, anarchic	نراجمی قیادت
Leadership, authoritarian	استبدادی قیادت
Leadership, autocratic	مطلق احتمان قیادت
Leadership, democratic	جمهوری قیادت
Leading principle	اہم اصول
Lead poisoning	سیسیسہ سمیت
Learner	ستلم۔ آموزگار
Learning	آموزش
Learning, abstract	تجربی آموزش
Learning, approach	تعارفی آموزش
Learning, arbitrary	بے اصول آموزش
Learning, associative	تلاری آموزش
Learning, avoidance	احترازی آموزش
Learning, concomitant	ضمنی آموزش
Learning, discontinuity theory of	نفری غیر تسلسل آموزش

Learning, discrimination	تمیزی آموزش
Learning, distributed	آموزش پهلو
Learning, effective	موثر آموزش
Learning, efficient	کارگرا آموزش
Learning, escape	فراری آموزش
Learning, exploratory	برخیسی آموزش
Learning, hierarchy	مدارج آموزش
Learning, ideational	تصویراتی آموزش
Learning, incidental	اتفاقی آموزش
Learning, instrumental	دستیانی آموزش
Learning, intentional	ارادی آموزش
Learning, laboratory	عملی آموزش
Learning, massed	آموزش پلاروفن
Learning, part	اوراقی آموزش
Learning, perceptual	اوپریک آموزش
Learning, primary	اولین آموزش
Learning, programmed	پروگرام بند آموزش
Learning, purposive	مقصدی آموزش
Learning, rational	نتعلی آموزش
Learning, reversal	مغکوس آموزش
Learning, rote	رشنا
Learning, sensory	حسی آموزش
Learning, spaced	آموزش باوقت
Learning, transfer of	انتقال آموزش
Learning, trial and error	آموزش باسی و خطا
Learning, types of	أنواع آموزش
Learning, unspaced	آموزش بلاوقت

Learning, verbal	لفظی آموزش
Learning, whole	آموزش یہ طریق کل
Learning by insight	آموزش با بصیرت
Learning coefficient	شرح آموزش
Learning curve	خط آموزش
Learning disability	مذکوری آموزش
Learning material	سامان آموزش
Learning moment	لحظه آموزش
Learning periods	ادوار آموزش
Learning plateau	آموزش میں سطح توقف
Learning process	عمل آموزش
Learning situation	توقف آموزش
Learning skill	تعلیمی ہمارت
Learning unit	تعلیمی اکائی
Least resistance	اقل مزاحمت
Least squares method	طریقہ اقل مریبات
Leave, average	او سط رخصت
Leave, casual	رخصت اتفاقی
Leave, commuted	سیاری رخصت
Leave, compensatory	عوضی رخصت
Leave, converted	سبدل رخصت
Leave, earned	استحقاقی رخصت
Leave, medical	رخصت علاالت
Leave, quarantine	رخصت ٹرنلینز
Leave, sabbatical	رخصت علی
Leave allowance	رخصت الارزنس
Leave application	درخواست رخصت

Leave of absence	رخصت غیر حاضری
Leave on average pay	او سط تاخواه رخصت
Leave on half average pay	نصف او سط تاخواه رخصت
Leave preparatory to retirement	رخصت قبل سبک درشی
Lecture	لیکچر
Lecture, extension	توسیقی لیکچر
Lecture, episodical	حکایتی میکچر
Legal duty	قانونی فرض
Legal ethics	قانونی اخلاقیات
Legal justice	قانونی انصاف
Legal right	قانونی حق
Legend	اسطور
Legislation	قانون سازی
Legitimate	جاوید
Legitimate claim	جاوید و عوی
Leniency error	خطای زمی
Lenticular nucleus	عدی مرکز
Leptokurtic	کم توسي خط تکرار
Leptosome	نازک انداام
Lesbianism	لبیت
Lesion	جراحت
Lesion neural	عصبی جراحت
Lesson, broadcast	نشری سین
Lesson, deductive	استقرائی سین
Lesson, demonstrative	نمذن کا سین
Lesson, derived	ماخذ سین
Lesson, inductive	استقرائی سین

Lesson, object	سبق بذریمه اشیا
Lesson, assignment	تفریقی سبق
Lesson note	اشارات سبق - درسی اشاره
Lesson plan	درسی خاکم
Lesson procedure	طریقه کارسبق
Lethargy	سستی
Leucotomy	قطع لخته رماغ
Level	سطح
Levelling, memory	بازیافت همواری
Liberalism	برلنزم
Liberation	نجات - آزادی
Libertarianism	ایجاد
Libidinal organization	لبی و تنیم
Libido	بسیدو
Library	کتب خانه - لابیرینتی
Library, circulating	گشتنی کتب خانه
Library, mobile	گشتنی کتب خانه و گشتنی لابیرینتی
Library, national	نیشنل لابیرینتی
Library, public	پبلک لابیرینتی
Library, reference	حواله لابیرینتی
Library, school	اسکول لابیرینتی
Lie detector	آلکلزب شناسی
Life history method	سوانح طریقه
Life space	میدان حیات
Limen	حد احساس و ادراک
Limits, method of	طریقه دریافت حد
Line-staff concept	تصویر تسلیم در جان

Linguistic analysis	لسانی تجزیہ
Link, imaginary	خیالی کڑی۔ موبہوم کڑی
Link, interpolated	ادغامی کڑی
Linkage	رالبلٹ
Link battery of clerical test	لٹک سکرکی۔ مجموعہ آزمائش
Lip reading	لب خوانی
Lispings	شسلانا
Literacy	خوانندگی
Literalism	حرفت پرستی
Litigious type	مقدمہ بازٹارڈ۔ جنگجو اولٹاپ
Lloyd Morgan's canon	اصول لائیڈ مارگن
Loaded words	جذبہ آمیز الفاظ
Lobe	مدور لختہ
Lobe, frontal	پیش رماغ لختہ
Lobe, occipital	وسط رماغ لختہ
Lobe, parietal	پشت رماغ لختہ
Lobe, temporal	طرین رماغ لختہ
Lobectomy	عمل جراحی لختہ، رماغ
Lobotomy	قطع لختہ رماغ
Lobotomy, transorbital	تراسی لختہ ہائے رماغ
Localization	تحصیر
Local sign	مکانی نشان
Location	تیقین مکان
Location score	شمار تیقین مقام
Locomotion	نقل مکانی
Loco-motor ataxia	اخلل انتقال و حرکت
Loco-motor exploration	بستجو بر بنائے نقل و حرکت

Logic	منطق
Logic, combinatory	اجتیاعی منطق
Logic, formal	صوری منطق
Logic, material	مادی منطق
Logic, mathematical	ریاضیاتی منطق
Logic, philosophical	فلسفیان منطق
Logic, symbolic	علامتی منطق
Logic, three valued	سه قدری منطق
Logic, traditional	روایی منطق
Logical addition	منطقی جمع
Logical equivalence	منطقی تساوی
Logical multiplication	منطقی ضرب
Logical product	منطقی حاصل
logical sum	منطقی حاصل جمع
Logico experimental method	منطقی اختیاری طریقه
Logistic	استدللایی رقدم (مشعلن به علمی)
Logomachy	منطق جدید تزاع نفقی
Logos	دگرس
Logo therapy	علاج باللقطة. علاج بذر لیه الفاظ
Long range study	طربی مدت سطالع
Long-sightedness	دور نظری
Loquacity	بیکاری
Lost time accident	زیاده وقت خارث
Loudness	بلند آهنگ
Loyalty	وفاداری
L-shaped curve	خط بشکل ایل
L-transcendental	ماوراء منطق

L-two valued	دو قدری منطق
Lucid interval	لحوظہ پر مشکاری
Lumbar region	گرد و گھر
Lumen naturale	طبیعی نور افشا ن
Luminosity	تابندگی
Luminosity function curve	خط درجہ ضیا
Lust murder	قتل شہروانی
Lustre	چمک
Lycanthropy	خوبی

M

Machine theory	مشین نظریه
Macquarrie test for mechanical ability	میکوری مشین قابلیت آزمانگی
Macrocosm	عالم اکبر
Macrocephalic	مریض کلاس سری
Macropsia	مرض کلاس بینی
Magic	جادو - سحر
Magic, sympathetic	انتقالی جادو
Magnitude estimation method	طریقہ انداز مقدار
Major (adj)	اکبر
Major (n)	بانغ
Make believe	قریب تھیں
Maladaptation	نقص مطابقت
Mal-adjusted individual	نامطابق فرد
Maladjustment	نقص مطابقت
Maladjustment, acute situational	شدید حالانی نامطابقت
Maladjustment, social	سماجی نقص مطابقت
Malevolence	بدخواہی
Malformation	بد ساختگی
Malice	کینہ

Malign	مودی
Malingering	بیماریتہا
Malleus	کے لیس / اسخوان گوش
Malobservation	نقص مشاہدہ
Mamillary bodies	پستانی اجسام
Mana	منادر پر اسلامی عقیدے کے مطابق تمام اشیاء میں ہوتی ہے)
Management	انتظام۔ انتظامیہ
Management, school	انتظام مدرسہ۔ انتظامیہ مدرسہ
Management prerogative	محض حقوق انتظامیہ
Managerial clique	انتظامیہ گٹ
Managerial control	انتظامیہ کنٹرول
Mania	مانیہ۔ خبط
Mania, acute	شدید خبط۔ شدید مانیہ
Manic cycloid component	(خطہ کا) جوش و اضلال عنصر
Manic depressive cycles	ادوار جوش و اضلال
Manic depressive psychosis	جنون جوش و اضلال
Manic depressive reaction	جوش و اضلال رد عمل
Manic depressive reaction, circular	دوری جوش و اضلال رد عمل
Manic depressive reaction, mixed	مخلوط جوش و اضلال رد عمل
Manic excitement	مانیانی جوش
Manic reaction	مانیانی رد عمل
Manic stupor	مانیانی صشی
Manifest	آئشکار
Manifestation	ظہور۔ اظہار
Manifold	متعدد

Manipulation	باقش پیر جلانا / جوڑ توڑ
Maniton	سرخ ہندی عقیدہ منا
Mannerism	محضوص انداز
Manners	طور طریقہ آداب
Manometer	رباؤ پیما (رسالات)
Man to man rating scale	فردو بہ فرد درجہ پیما
Marasmus	سوکھا (درمی)
Marchiafava- Bignami disease	بارکیا فاوا- بگ نامی مریض
Marginal contrast	حاشیائی تھالت
Marginal field	حاشیائی ساحت
Marginal group	حاشیائی گروپ
Marginal institution	حاشیائی ادارہ
Marginal man	حاشیائی فرد
marital, extra	غیر ازدواجی
Marital, pre	قبل ازدواجی
Mark (n)	نشان / نمبر
Mark (v)	نشان لگانا - نبر دینا
Mark, absence	نشان غیر حاضری
Mark, leave	نشان رخصت
Mark, presence	نشان حاضری
Marks, maximum	انہائی نمبر
Marks, minimum	کم سے کم نمبر
Marketable skill	قابل بازار مہارت
Martius disc	مارٹیس قرص
Martyr	شہید
Martyrdom	شہادت
Marxism	مارکسیت - ملاد کسزم

Masculine protest	احتجاج مردانه
<u>M</u> asculinity femininity test	رجولیت - نسائیت آزمائش
Masking	نقاب ڈالنا
Masochism	سوکیت / اذیت جوئی / آزار پسندی
Mass action, theory of	نظریہ عمل مجموعی
Mass, apperceptive	استدراکی اجتماع
Mass education	عمومی تعلیم
Mass lay off	اجتماعی کار مور قرنی
Mass media	وسائیں نشر و اشاعت
Mass production industry	کیٹر پیداوار صنعت
Mass suggestion	ایمانے مجموعی
Masson disc	مسین ترس
Master	استاد - مالک
Master morality	آفایانہ اخلاق
Matched group	مطابق گروہ
Matching (adj)	مطابق گروہ پ
Matching (Verb.N)	جوڑ ملانا
Material a priori	مادی قبل تجربی (تصورات)
Material equivalence	مادی تساوی
Material goodness	مادی خیر
Material ground	مادی بنیاد
Materialism	مادیت
Materialism, attributive	عرصی مادیت
Materialism, causal	عملی مادیت
Materialism, dialectical	جدلیاتی مادیت
Materialism, equative	تساوی کیفت و کم مادیت
Materialism, historical	تاریخی مادیت

Materialism, phenomenal	منظاره‌ی مادیت
Materialism, scientific	سائنسی مادیت
Materialization	مادی تشكیل / تجسمیت
Maternal deprivation	فتا خودی
Matriarchical society	مادری سماج
Matrices	اقالب - ۲ - ماده
Matter	۱ - ماده - ۲ - مواد
Matter, law of conservation of	قانون بقایه ماده
Matter, prime	اولین ماده
Maturation	بلوغ ریشه‌گر
Maxim	اصول - گز - مقول
Maximum bonum	خیر اعظم
Maze	بجهل جعلیان
Mean	او سط
Mean deviation	او سط انحراف
Mean gradation	او سط تدریج
Mean variation	او سط انحرافات
Meaning	معنی
Meaning, aggregate	مجموعی معنی
Meaning, basic	بنیادی معنی
Meaning, cognitive	و تئوری معنی
Meaning, derived	مرادی معنی
Meaning, emotive	تأثیری معنی
Meaning, factual	واقعی معنی
Meaning, generic	جنسی معنی
Meaning, specific	خصوصی معنی
Mediation	وساطت

Means	وسیله
Mean scatter	ارسط انحراف
Measurement	پیمائش
Measurement, objective	معزوفی پیمائش
Measurement, quantitative	کمی پیمائش
Meatus	سمعی زانی
Mechanical pacing	ریکالجی ریتارنندی
Mechanical relations tests	سیکلائی روابط آزمایشات
Mechanical safety device	مشینی تحفظ تدبیر
Mechanism	تمدیر-ریکالجیت-آلکار-ساخت-نظام
Mechanism, defence	رنگی آلکار
Mechanism, protective	حفاظتی تدبیر- حفاظتی نظام
Median	روسطانیہ
Mediating process	رساطتی عمل
Medicant	دروشش
Medium	ذریعہ- وسیله
Medium of instruction	ذریعہ تعلیم
Medullary sheath	نخاعی علاف
Megalomania	خطب عظمت
Megalopsychosis	جزن عظمت
Melancholia	مالی خوبیا
Melancholia, involutional	رجعتی مالی خوبیا
Melancholic	مالی خوبیا
Meliorative hygiene	فلایحی حفظیان صحوت
Meliorism	فلایحت
Melody	آهنگ
Membership transference	انتقال رکنیت

Membrane	جل
Membrane, basilar	کان کا پرده
Membrane, Reissners	ریسنز میگن
Membranous labyrinth	حبيٰ وار چکر
Memory	حافظہ - یاد
Memory, associative	اسیلانی حافظہ
Memory, auditory	سمعی حافظہ
Memory, emotive	مذہبی یا دردشت / بندباقی حافظہ
Memory, faculty of	سلکہ حافظہ
Memory, immediate	غوری حافظہ
Memory, racial	شل حافظہ
Memory, rote	رمائی حافظہ
Memory, visual	بصیری حافظہ
Memory apparatus	آئہ حافظہ
Memory image	تمثیل حافظہ
Memory image, primary	اوّلین تمثیل حافظہ
Memory quotient	قدر حافظہ
Memory re-integrative	باز تکمیل حافظہ
Memory span	حیطہ حافظہ
Memory trace	نقش حافظہ
Mendelism	نظریہ مینڈل
Meniere's syndrome	مینیئر جوہر علامات
Meninges	مینینجس
Meningitis	مینینجیت / گردن توڑ بخار
Menopausal reaction	حیض مرتوںی رو دعل
Mental abnormality	زہنی غیر طبعی
Mental activity	ذہنی فعالیت

Mental atomism	ذہنی جوہریت
Mental attitude	ذہنی روایہ
Mental condition	ذہنی کیفیت
Mental defect	ذہنی نقص
Mental deficiency	ذہنی کمی
Mental derangement	ذہنی خلل
Mental deterioration	ذہنی انحطاط
Mental disorder	ذہنی فساد
Mental faculties, theory of	نظریہ ملکات ذہنی
Mental health	ذہنی صحت
Mental health Hazards	خطروں صحت ذہنی
Mental hygiene	حافظان صحت ذہنی
Mental Maturity	ذہنی پختگی۔ ذہنی بورغ
Mental maturity, test of	ذہنی بورغ آزمائش
Mental measurement	ذہنی پیمائش
Mental Mechanism (defence mechanism)	ذہنی تدابیر
Mental organization	ذہنی تنظیم
Mental phenomenon	ذہنی مظہر
Mental prime	ذہنی شباب
Mental process	ذہنی عمل
Mental retardation	ابساطے ذہنی
Mental set	ذہنی آمارگی
Mental state	ذہنی حالت
Mental test	ذہنی جائز
Mentalism	نظریہ نفسیت
Mentalism, emergent	نجائی نفسیت
M mentality	ذہنیت

Mentally deficient	كم ذهن
Mercy	رحم
Merit	فضيلت خبني
Merit rating	فضيلت درج بندي
Merrick multiple price rate	ميرك تعدد شرح اجرت
Mescaline	مسكين (رودوا)
Mesencephalon	وسط رماغ
Mesmirism	سمسرزم
Mesokurtic	قرى نسط تكريه
Mesomorph	قرى اندام
Mesomorphy	قرى انرامي
Mesopic luminosity	متناسب ضيا
Mesopic vision	متناسب بصرارت
Metabolic	استخالي
Metabolic psychosis	استخالي حنون
Metabolism	استفال
Meta-ethics	ما بعد اخلاقيات
Meta language	ما بعد اللسان
Metalogical	ما بعدا المنطقى
Metamorphosis	قلب ما هيئت
Metaphysical ethics	ما بعد الطبيعى اخلاقيات
Metaphysical independence	ما بعد الفلسفه / ما بعد الطبيعى حرية
Metaphysical theory	ما بعد الطبيعى نظرية
Metaphysics	ما بعدالطبيعتا
Metapsychology	ما بعد النفسيات
Metascience	ما بعد علم - ما بعد سائنس
Meta empiric	ما بعد تجربى - ما فوق التجربت

Metasychosis	آداگون - تئاتر ارواح
Metencephalon	حرام مغز جین
Meter, candle	شمپیا
Method	طریقہ
Method, ABC	طریقہ بجا
Method, acoustic	صوتی طریقہ
Method, activity	فعالیتی طریقہ
Method, alphabetic	ابجدهی طریقہ
Method, alternate forms	متداول اشکال طریقہ
Method, axiomatic	طریقی اصول متعارف نامہ
Method, Baconian	بیکنی طریقہ
Method, casual	اتفاقی طریقہ
Method, causal	علیٰ طریقہ
Method, combined	مرکب طریقہ
Method, comparative	مقابلی طریقہ
Method, concentric	سم مرکز طریقہ
Method, convergent	طریقہ ارتکاز
Method, deductive	استخراجی طریقہ
Method, dialectical	جدلیاتی طریقہ
Method, direct	بالراست طریقہ
Method, direct deductive	بلاؤ اسٹے استخراجی طریقہ
Method, discussion	مناگراتی طریقہ
Method, disputation	طریقہ ہجت
Method, empathic	سم احساسی طریقہ
Method, empirical	تجربی طریقہ
Method, experience activity	تجربیاتی طریقہ
Method, experimental	افتیاری طریقہ

Method, factor comparison	تعابی عوامل طریقہ
Method, geometric	مہندسی طریقہ
Method, graphic	گرافی طریقہ
Method, Herbartian	ہر برٹھ طریقہ
Method, heuristic	الستافی طریقہ
Method, inductive	استقرانی طریقہ
Method, inverse deductive	مکوس استخراجی طریقہ
Method, Jesuits	یسوعی طریقہ
Method, kindergarten	کنڈر گارڈن طریقہ
Method, kinesthetic	ائز کی حسی طریقہ
Method, Lancasterian	لکاسٹری طریقہ
Method, lecture	لیکچر طریقہ
Method, 'look & say'	دیکھو بولو طریقہ
Method, maientic	تولیدی طریقہ (رسم اطی طریقہ)
Method, Montessori	مانسیسواری طریقہ
Method, Morrison	ماریسین طریقہ
Method, natural	فطری طریقہ
Method, objective	معروضی طریقہ
Method, object teaching	بین اشیا طریقہ
Method, physical	طبیعی طریقہ
Method, playway	تعلیم کا کھیل کوڈ طریقہ
Method, pre-suppositional	پیش مفروضی طریقہ
Method, problem	مسئلی طریقہ
Method, problem solving	حل مسئلہ طریقہ
Method, project	مسنسوی طریقہ
Method, romantic	رومانتیک طریقہ
Method, sight	نظر طریقہ

Method, sociometric	سماجیت پیمانی طریقہ
Method, socratic	سقراطی طریقہ
Method, speed up	رنگار افزایا طریقہ
Method, statistical	شماریاتی طریقہ
Method, structural	ساختی طریقہ
Method, synoptic	تلخیصی طریقہ
Method, test-retest	مکرر آزمائش طریقہ
Method, unit	اکائی طریقہ
Method, whole	ملحقیہ کل
Method of authority	سندي طریقہ
Method of increments	افزونی طریقہ
Method of intuition	وجہانی طریقہ
Method of probable inference	طریق استنباط احتمالی
Method of reflective inquiry	تفکری تحقیقی طریقہ
Methodology	طریق کار- منہاجیات طریقیات
Metronome	میٹرونوم
Metronoscope	میٹرونون اسکوپ
Microcephalic	خردسر
Microcephaly	خردسری
Micro-chronometer	مکروکرو دنی میٹر
Microcosm	عالیم اصغر
Micro-motion study	اقل حرکت مطالعہ
Micropsia	خرد بینی
Mid brain	وسط رماغ
Middle ear	وسط گوش
Midgetism	بلوناپ
Migraine	شیقیقہ

Milos mobility rotor	مائلکرکت پذیری آن گردان
Milieu	بایوں.
Mimesis	نقل دخیال- جذبہ - فعل)
Mind	ذہن
Mind, cosmic	کائناتی ذہن
Mind, process theory of	فعل نظریہ ذہن
Mind, relational theory of	نسبتی نظریہ ذہن - ذہن کا نسبتی نظریہ ذہن کا نظریہ تعلق
Mind, substantive theory of	ذہن کا وجودی نظریہ ذہن کا نظریہ وجود
Mind, unconscious	لا شوری ذہن
Mind, universal	آفاقی ذہن
Mind-body relation	تعلق ذہن و جسم
Mind cell	خلیہ ذہن
Miniature test	خود پیاز آزمائش
Minimal changes, method of	اقل تغیر کا طریقہ
Minnesota assembly test	مینسوٹا اسembly ٹیسٹ
Minnesota clerical checking test	مینسوٹا کلرکی جانچ
Minnesota multiphasic personality inventory	مینسوٹا مختلف النوع فرود
Minnesota paper form board test	مینسوٹا پیپر فارم بورڈ
Minnesota spatial relations test	مینسوٹا مکانی روابط آزمائش
Minor moralities	صفت اخلاقی مابطہ
Minor morals	پست اطوار
Miracle	معجزہ
Miracle cure	معجزہ نما علاج / سمجھنے سما علاج

Mirror drawing	عکس کشی
Misanthropy	مردم بیزاری
Misconduct	فضل ناردا - بد پن
Mis-education	ناقص تعلیم
Misogyny	زن بیزاری
Misology	علم بیزاری
Misplaced concreteness, fallacy of	مناظر مفرد نیت
Mitosis	نقشیم لونیہ
Mneme	بنائے حافظہ
Mnemonic	متعلق بنائے حافظہ
Mnemomic verse	سم حافظہ بیت
Mob	سچووم
Mobility drive	فعالیت حکر
Mobility indicator	حرکت نا
Modalism	روحیت ذات و جوہر (سینی عقیدہ)
Modality	جهت
Modality, sensory	حسی جہت
Mode	شان - طرز - اکسری (رشماریات)
Mode, finite	محمد رشان
Mode, mixed	خلوط جہت
Mode, simple	مفرد جہت
Mode, teaching-learning	تدریس - آموزش مادل
Mode, consequence	مشائی نتیجہ
Model pupil (ideal pupil)	مشائی شاگرد
Moderation	تعدیل
Modulator	آئے تعدیل زیر و بم
Modus operandi	طریقہ کار

Modus ponendo ponens	طریق وضع مقدم رفع تالی
Modus ponendo tollens	طریق وضع مقدم رفع تالی
Modus ponens	وضع مقدم
Modus tollendo ponens	طریق وضع تالی رفع مقدم
Modus tollens	رفع تالی
Moeda impulsimeter	موڈا، بیجان پیما
Molecule	سالم
Monad	موناد، احادیہ
Monad, dominend	غالب احمریہ
Monad, queen	شاہ احمریہ
Monadology	احدیت نظریہ
Monadistic	احدیت
Monarchianism	انکار انوہیت سچ
Monasticism	خانقاہیت
Monastic life	خانقاہی زندگی
Monaural hearing	یک گوشی سماعت
Mongolian idiocy	منگولی فتوڑ عقل
Mongolian type	منگولی ٹاپ
Monism	ردیت
Monism, causal	علی وحدیت
Monism, critical	تفقیدی وحدیت
Monism, empirical	تجربی وحدیت
Monism, epistemological	علمیاتی وحدیت
Monism, equative	ساواقی وحدیت
Monism, idealistic	تقریری وحدیت
Monism, logical	منطقی وحدیت
Monism, materialistic	سادگی وحدیت

Monism, neutral	بے رنگ وحدت
Monitor	مانیشنر
Monitorial system	مانیشنری طریقہ
Monitoring	مانیشنری
Monoachromatism	مکمل رنگ کوری
Monocular	یک چشمی
Monocular vision	یک چشمی بھارت
Monoideism	سلط خیال واحد
Monolatry	یک معبود پرستی
Monomania	یک خیال خبیث
Monophobia	خوف تہیائی
Monopligia	یک عضوی فارغ
Monopsychism	نظریہ وحدت روح
Monosynaptic arc	یک اتصالی توں
Monotheism	وحدانیت
Monotony	یک سانی۔ اکتاہٹ
Monozygotic	یک زوجی
Mood	کیفیت۔ مزاج رفتگیات
Moral a priori	- ہر بے (قیاس منطبقی) اخلاقی سابق تجربہ
Moral asymmetry	اخلاقی عدم تناسب
Moral atavism	اخلاقی ز جبیت جدی
Moral attitude	اخلاقی روایہ
Moral bias	اخلاقی سیلان
Moral code	اخلاقی مقابلہ
Moral connoisseur	اخلاقی سبصر
Moral courage	اخلاقی حرمت

Moral decadence	اخلاقی احتکاط
Moral disease	اخلاقی مرض
Moral duty	اخلاقی فرض
Morale	حوصلہ
Moral exhortation	اخلاقی ترغیب
Moral faculty	اخلاقی ملکہ
Moral faith	اخلاقی ایمان
Moral fanaticism	اخلاقی غلو
Moral futurism	اخلاقی مستقبلیت (آرٹ)
Moral goodness	خیر
Moral grading	اخلاقی درجہ بندی
Moral indifferentism	اخلاقی بے نیازی
Moral imbecile	اخلاقی ابلیہ
Moral institutions	اخلاقی ادارے
Moralism	اخلاق پرستی
Moralist	واعظ اخلاق اخلاق پرست
Morality	اخلاق
Morality, classical	کلاسیک اخلاق
Morality, closed	بند اخلاق
Morality, hypothetical	مفروضی اخلاق
Morality, institutional	ادارتی اخلاق
Morality, open	کشادہ اخلاق
Morality, proverbial	ضرب شمل اخلاق
Morality, pseudo	مسنونی اخلاق
Morality, heteronomous	غیر خورا انتیاری اخلاق
Morality, religious	مذہبی اخلاق
Morality of masters	اخلاق آئانی

Morality of slaves	اخلاق علایمی
Moralization	اخلاقی تلقین
Moral law	اخلاقی قانون
Moral lawlessness	اخلاقی نزاج
Moral ontology	اخلاقی وجودیات
Moral optimism	اخلاقی رجایت
Moral order	اخلاقی نظم
Moral philosophy	اخلاقی تلسفه
Moral predicate	اخلاقی محول
Moral purism	اخلاقی محضیت
Moral rightness	اخلاقی صواب
Moral rigidity	اخلاقی کثرن پ
Morals	اطوار
Moral sense theory	نظریہ حس اخلاق
Moral sentiment	اخلاقی عطوفت
Moral sentiment theory	نظریہ جذب اخلاقی
Moral subject	اخلاقی موضوع
Moral syllogism	اخلاقی قیاس
Moral symmetry	اخلاقی تناسب
Moral training	اخلاقی تربیت
Moral turpitude	اخلاقی فساد
Moral view-point	اخلاقی نقطہ نظر
Morbid	مریضانہ
Morbidity	مریضانہ سیفیت
Morgan's canon	ضابط مارکن
Mores	رواج
Moron	ناقص اعقل

Morphology	شکلیات
Mortification of the flesh	تغذیه جسمانی
Mosso-ergograph	موسوار گرگرات
Mother-play	مادری تماشی
Motility	حرکت پذیری
Motion, curved	خم دار حرکت
Motion analyzer	حرکت تجزیه کار
Motion models	حرکت مادل
Motion, parallax (or movement parallax)	حرکی فضی منظر
Motivation	تحریک
Motivation, extrinsic	خارجی تحریک
Motivation, internal	اندرونی تحریک
Motivation, intrinsic	ذاتی تحریک
Motivation, secondary	ثانوی تحریک
Motivational selectivity	محکی انتخاب
Motive	حرک
Motive, affiliative	مواستی محک
Motive, biogenic	خلقی محک
Motive, derived	اکتسابی محک
Motive, ego-integrative	امانربنامی محک
Motive, emergency	هنگامی محک
Motive, mastery	غلبه محک
Motive, objective	معزوفی محک
Motive, psychosexual	نفسی جنسی محک
Motive, socio-genic	سماجی محک
Motive, primary	بنیادی محک
Motive, secondary	ثانوی محک

Moto extensor	حرکی عصبانیه باسط
Moto-neuron	حرکی عصبانیه
Motor	حرک
Motor area	حرکی رقبه
Motor end plate	حرکی مخوریه تثیر
Motor pathway	حرکی راسته
Motor rhythm test	آهنگ حرکت آزمایش
Motor unit	حرکت اکانی
Movement, apparent	اشتباه حرکت
Movement, asymmetrical	غیرمتناهی حرکت
Movement, ballistic	سنجاقی حرکت
Movement, bimanual	دوسنی حرکت
Movement, circular	دوری حرکت
Movement, conjugate	جفت حرکت
Movement, coordinated	مربوط حرکت
Movement, escape	فراری حرکت
Movement, manipulative	دست درزی حرکت
Movement, one hand	یک دستی حرکت
Movement, parallel	متوازی حرکت
Movement, pursuit	تعابی حرکت
Movement, reflex	افطراری حرکت
Movement, saccadic	جستی حرکت
Movement, score	شمار حرکت
Movement, sequential	متواتی حرکت
Movement, serial	سلسله دار حرکت
Movement, shrinking	سکونت کی حرکت
Movement, simple positioning	ابتداً تعین مقام حرکت

Movement, straightline	مستقیم حرکت
Movement, symmetrical	متقارن حرکت
Movement, tense	پُر تناز حرکت
Movement, three dimensional	سه بعدی حرکت
Muller Lyer illusion	مولر لایر التباس
Multifactor theory	نظریہ کثرت عوامل
Multimodal curve	چند اکثریہ خط
Multiple choice	تعددی انتخاب
Multiple cut off points, procedure of	چند حدی طریقہ انتخاب
Multiple management	تعددی انتظامیہ
Multiple regression equations	تعددی رجعت مساوات
Multiple sclerosis	تعددی صلابت نیزج
Multiple type theory	چند دفعی نظریہ
Multiplicism	کثرتیت و جور
Multiplicity	کثرت
Multipolar cell	کثیرقطبی خلیہ
Multipsychism	نظریہ کثرت ارادات
Multipurpose school	کثیر المقاصد مدرسہ
Multisynaptic arc	کثیر انفصالی قوس
Mundane	دنیوی
Muscle	عضل
Muscle, smooth	سموئار عضل
Muscle, striped	خط دار عضل
Muscle bundle	عفلات گھپا
Muscle sense	عقلی حس
Muscle system	عقلی نظام
Muscle spindle	تکل عفلہ

Mutation	تحول
Mutation theory	نظریہ تحول
Mundus intelligibilis	عالم ایمان
Mundus sensibilis	عالم محسوسات
Mutism	گزناکان
Mutualism	نظریہ اتحاد بائی
Mutual pairs (sociometric)	خور اتحابی جوڑے
My-driasis	پتلی پھیلاو
Myclin sheath	چرپی غلاف
Myelitis	ورم حرام مغز
Myoclonus epilepsy	تشنجی مرگ
Myofibril	عضلی ریشک
Myogenic	عضله زدا
Myograph	ماہیوگراف
Myology	عضلیات
Myo-neural junction	عضل عصبی اتصال
Myopia	ضعف بصر
Mysophobia	گندگی خوف
Mysterium fastinosum	سر رحمان
Mysterium tramendum	سر
Mystery	سر
Mystic	راصلی - یاطنی
Mysticism	راصلیت - یاطنیت
Mysticism, complete	سریت کامل
Mysticism, incomplete	سریت ناقص
Myth	اساطیر - اساطیری کہانی - خیال قصہ
Mythology	دیو مالا - رمزیہ اطمینان
Myxedema	ورم درقیہ

N

Nadir	نادر
Naming	تسمیہ
Narcissism	ترگیست
Narco-analysis	تزویی تجزیہ
Narcolepsy	نیسدرولگ
Narcosis	تخذیر
Narco-synthesis	تزویی رفن امثار
Narco-therapy	تزویی علاج
Narcotic	محدر
Nasal cavity	انفی جوف
Native	غلقی
Native endowment	خلقتی دریافت
Nativism	خلقتیت
Natural consequences, theory of	نظریہ نظری ستارج
Natural election	رقبت نظری
Natural endowment	نظری دریافت
Naturalism	طبیعت - فطرتیت
Naturalistic ethics	طبیعی اخلاقیات
Naturalistic fallacy	طبیعی مغالط

Naturalistic hedonism	طیبی لذتیت
Naturalistic mysticism	طیبی واصلیت
Naturalistic perfectionism	طیبی تکمیلت
Natural kinds, corina doctrine	نظریہ اقسام طبعی
Natural law theory	نظریہ نظری فائز
'Natural' man	فطری انسان
Natural right	فطری حق
Natural science	علم طبی
Natural selection	طبعی انتخاب
Natural slave doctrine	پیدائشی غلام نظریہ
Naturalism, agnostic	لارادی نظریت
Naturalisms, dogmatic	ارعائی نظریت
Naturalism, ethical	اخلاقی نظریت
Naturalism, evolutional	ارتقاوی نظریت
Naturalism, non-subjective	غیر موضوعی نظریت
Naturalism, psy-chological	نفیانی نظریت
Natura-naturaus	عالم طبیع
Natura naturata	عالم کثرت
Nature	نطرت۔ طبیع
Nature, uniformity of	یکسانی عالم نظرت
Nature, unity of	وحدت عالم نظرت
Nature-nurture	نطرت و تربیت
Nature philosophy	فلسفہ طبیعت
Nature religion	ذریب فطرت
Nature spirit	روح عالم طبیع
Nature study	بنچراستدی
Nature trait	خلقی و صفت

Nature worship	نطرت پرستی
Necessitarianism	لزومیت
Necrophilia	لاش مباشرت
Need	احتیاج - ضرورت
Need, affiliative	احتیاج موالیت
Need, basic	بنیادی / ابتدایی
Need, organic	جسمانی / احتیاج
Need, psychogenic	نفسی الاصل احتیاج
Need, viscerogenic	احشائی الاصل احتیاج
Need, achievement	احتیاج رقی
Need satisfaction sequence	سلسلہ تکمیل احتیاج
Needs, developmental	احتیاج بالیدگی
Needs vector	احتیاج نزا
Negation, contradictory	تناقضی نفسی
Negationism	منفیت
Negative	منفی
Nagative duty	منفی فرض
Negative proof	منفی ثبوت
Negativism	منفیت / نفیتات / انکاریت (فلسفہ)
Negativism, ethical	اخلاقیاتی منفیت
Neobehaviourism	نوگرداریت
Neo-cerebellum	فرمیخ
Neo-cortex	زوفش
Neo-encephalon	نورماخ
Neo-Freudian theory	نئو فراؤڈی نظریہ
Neogenesis	آفریش آگئی
Neo-idoelism	نئو تصوریت

Neo-Institutionism	نوجوانیت
Neo-Lamarckism	فرلامارکیت
Neologism	ز تجیریت
Neology	الغاظاسازی
Neonate	نرمودر
Neo-Platonism	نوافلاطونیت
Neo-scholasticism	فودرسیت
Neosis	آگوی
Neo-thomism	نظامیت
Nerve	عصب - نس
Nerve, autonomic	خود اختیاری نس یا عصب
Nerve, crainal	عصب کاسه سر، عصب سر
Nerve, motor	حرکی عصب
Nerve, optic	عصب بصری
Nerve, peripheral	حاشیانی عصب
Nerve, sacral	مقدونی عصب
Nerve, sensory	حسی عصب، عصب حس
Nerve, spinal	ریشه که عصب
Nerve, sympathetic	مشارکتی عصب
Nerve, parasympathetic	نارگ مشارکتی عصب
Nerve, vasometer	قابل حرکی عصب
Nerve cell	عصبی خلیه
Nerve deafness	اعصابی بیرون
Nerve fibre	عصبی ریشه
Nerve impulse	عصبی فریب
Nerve-net system	عصبی جان نظام
Nerve olfactory	عصب شامه

Nerve root	شعاع عصبی
Nerve-trunk	عصب ستا
Nervous	اعصابی
Nervous arc	عصبی قوس
Nervous circuit, recurrent	مکرر عصبی دور
Nervous system	نظام عصبی
Nervous system, autonomic	خود اختیاری نظام عصبی
Nervous system, peripheral	پهلو شانی نظام عصبی
Nervous system, sympathetic	مشارکتی نظام عصبی
Nescience	بے خبری
Net connectivity	عصبی جاں اتصال
Neural arc	عصبی قوس
Neural conduction	عصبی ایصال
Neural crest	عصبی اچمار
Neural fold	عصبی تہہ
Neural groove	عصبی کھاچہ
Neuralgia	عصبی درد
Neural rivalry.	عصبی مسابقت
Neural tube	عصبی نالی
Neural type	عصبی وضع
Neurasthaenia	منتف اعصاب
Neurilemma	عصبی غلاف
Neurin	صین
Neuritas	درم اعصاب
Neurobiotaxis	میلان عصب سوئے پیغ
Neuro blast	پیش نظری
Neuro-circulatory asthenia	عصبی دوران ضفت

Neuro-circulatory instability	عصی دیمان گتون
Neuro dermatitis	اعصابی پتی
Neuro-endocrine data	عصی اندرکرینی مطالیات
Neuro fibril	عصی بریلک
Neuroglia	عصی نسیع
Neuro-humoral system	عصی مطلق نظام
Neurological development	عصیاتی نشودنا
Neurology	عصیات
Neuromuscular control	عصی عضل ضبط
Neuromuscular junction	عصی عضل اتصال
Neuron	عصاینی
Neuropathic heredity	مریض مصب ارثیت
Neuropathic trait	مریضانه عصی و صفت
Neuropathy	عصی طریقی علاج
Neuropil	نهانی عقب ریشه
Neuropsychiatrist	عصب نفسی معالج
Neuro psychiatry	عصب نفسی علاج
Neurosis	عصی اختلال
Neurosis, occupational	پیش و راه حل اعصاب
Neurotic	عصاینی مریض
Neurotic depressive reaction	اصابی افسوسی رومن
Neutral	بلے تخصیص
Neutralism	بلے زلیست
Neutral region	بلے کیفیت خطر
Nexus	مرکز بیان
Niemann-Pick disease	نیمن پیک مریض
Night Blindness	شب سوچی

Nightmare	کابوس
Nihil ex nihilo (ex-nihilo nihil fit)	نیست از نیست
Nihilism	عدمیت - انکاریت
Nihilism, legal	عقیدہ عدمیت قانونی
Nihilism, Political	عقیدہ عدمیت ریاست
Nihilistic delusion	رہم عدمیت
Nihilistic religion	ذہب انکاریت
Nihilition	عدمیم
Niscus	قرت ارتقا
Noema	تفکری فہم
Noetic	تفکری تعلق
Nomadism	بودیت
Nomenclature	نظام تسمیہ - تسمیہ
Nominalism	اسکیت
Nominal scale	لفظی پیمانے
Nomothetic approach	مجموعی طرز نظر
Non being	عدم
Non Coexistence	غیرہم وجودیت
Non Cognitive	نادوقنی
Non Cognitivist theory	نادوقنی نظریہ - نادوقفت
Non conformist	غیر متعین
Non cooperation	عدم تعاون
Non Covetousness	بے حسی
Non descriptive theory	غیر بیان نظریہ
Non distribution	غیر تقسیم
Non doing	ترک عمل
Non-dualism	لا دوہیت

Non-ego	غیر ایگو
Non-entity	لاشے
Non-ethical	غیر اخلاقی
Non-financial incentive	غیر مالی محرک
Non-Linear regression	رجعت غیر مستقیم
Non-Mental	غیر ذہنی
Non-observation	غیر مشاہدہ
Non-Participant	عدم شرک
Non-possession	عدم ملکیت
Non-reinforcement	عدم تقویت
Non-relational	غیر ریلتی
Non-relationship	غیر مستقیم تعلق
Non resistance	عدم مذاہت
Non sense syllable	لامعنی لفظ
Non-social	غیر سماجی
Non-statistical	غیر شماریاتی
Non-teaching personnel	غیر تدریس عہد
Non violence	عدم تشدد
Non-violent non cooperation	بے تشدد۔ عدم تعاون
Non voluntary action	غیر ارادی عمل
Norm	معیار۔ عیار
Normal	نارمل۔ طبیعی
Normal component	مام جزو ترکیبی
Normal distribution	نارمل تقسیم
Normal distribution curve	نارمل تقسیم خط
Normal probability curve	نارمل احتمالی خط
Normal school	نارمل اسکول

Normalcy	نارمل حالت
Normality	نارمل چوتا
Normative	اقراری-عیاری
Normative rule	عیاری قاعدة
Normative science	اقراری سائنس
Nosology	علم تقسیم امراض
Nothingness	نیستی
Notion, limiting	تحمیدی خیال
Notions	خیال
Notions communes	خیالات عامہ
Noumenon	بالذات (رنے)
Nous	عقل
Nouvoes	نوآموز
Novice	نوآموز
Nuclear delay	نیوکلیئن تاخیر
Nucleus	مرکزہ
Nucleus cochlear	کن گھونٹھا مرکزہ
Nucleus mesenophalic	وسط دماغ مرکزہ
Nucleus, sensory	حسیاتی مرکزہ
Nucleus, spinal	حبل مغز مرکزہ
Nucleus, vestibular	دیپزیٹر مرکزہ
Null class	صنف خالی
Null hypothesis	منفی مفروضہ
Number	تعداد- عدد- نمبر
Number facility	استعداد شمار
Numberable	قابل شمار
Numeral	بندسہ

Numen	روح-شے
Numeration	طریق شمار-شمار
Numerator	شمار کننده
Numinous	قدس-قدسی
Numinous (adj)	قدسی
Nyctophobia	خون شب
Nymphomania	خط زن
Nystagmus	چشم لرزه

O

Obesity	فربی
Object	معروض - مقصد
Object, epistemological	علمیاتی معروض
Object, external	خارجی معروض
Object, ontological	وجود ریانی معروض
Object, ostensible	ظاهری معروض
Object, related	متعلق معروض
Object, related language	متصل معروض زبان
Object, lesson	سبک اشیا
Object, transcendental	ساده رای معروض
Object-catheisis	توانانی مرتكب معروض
Object of moral judgement	اخلاقی تقدیریں کا مصدقہ
Object relationship	متعلق ب معروض
Objectivation	معروضنا - معروض بنانا
Objectivative	معروضی
Objective (adj)	معروضی
Objective (noun)	مقصد - مقصد
Objectvie, conative	ارادی معروض
Objective, educational	تعلیمی مقصد

Objective, general	عام مقصود
Objective, immediate	فری مقصود
Objective, indirect	با واسطه مقصود
Objective, social	سماجی مقصود
Objective, specific	خصوصی مقصود
Objective, ultimate	نهایی مقصود
Objective data	معروضی معطیات
Objective ethics	معروضی اخلاقیات
Objective naturalism	معروضی فلسفت
Objective theory	معروضی نظریہ
Objectivism	نظریہ معروضیت
Objectivism epistemology	علمیاتی معروضیات
Objectivity	معروضیت
Objectivization	معروضنا
Obligation	وجوب - مرہونیت - ذے داری
Oblique axis	زیچا خور
Oblique muscle	زیچا عضلہ
Oblique solution	تجھیں حل
Oblivioce	تمریبی نسیان
Obscurantism	تاریک خیال
Observation	مشاہدہ
Observation, controlled	منضبط مشاہدہ
Observation, experimental	اختیاری مشاہدہ
Observation, faculty of	ملکہ مشاہدہ
Observation, range of	حدود مشاہدہ
Observation, scientific	سائنسی مشاہدہ
Observation, simple	معمونی مشاہدہ

Observation, naturalistic	فی منظمه مشاهدہ
Observation centred approach	مشاهدہ مرکز طرز نظر
Observation statement	مشابہاتی بیان
Observer	مشاهدہ
Obsession	وہم مسلط
Obsessional neurosis	وہم مسلط خل
Obsessive compulsive reaction	مسلط اجباری رق عمل
Obsolete	متردک
Obverse	معدول
Obversion	تعدیل
Obversion, material	معنی تعدیل
Obvertend	موضوع تعدیل
Occasion	دوغ
Ocar's	
Oceau's razor (law of parsimony)	روکن قانون کفايت رقانون کفايت)
Occasionalism	نظریہ وساحت المی
Occlusion	انسداد
Occult	اسرار
Occultism	اسراریت
Occupation	پیشہ۔ مشغل
Occupational	مشغلي / پیشہ درانہ
Occupational therapy	مشغل طریقہ علاج
Occupational variance	فرق بر بنائے پیشہ
Occurence	دوغ / حدوث
Occurence, concurrent	ہم دوغ حارثہ
Occurence, probable	محتمل دوغ
Occurence, regularity of	اکتسار دوغ۔ باقا مدلگی دوغ

Occurrence, coincidence of	حادثانی ہم وقوع
Ochlophobia	خوبت انبوہ
Ocular	بصری
Oculogyric crisis	جمود گرددش حیثیم
Odd-even reliability	طاقت جنت معنیری
Odds, calculation of	اندازہ احتمالات
Odour	بو
Odour, pungent	تیز بو
Odour, putrid	تعفن
Odour, resinous	رال کی بو
Oedipal situation	ایڈپسی صورت حال
Oestrus	دور غلبہ شہوت
Offence	جاہار مانہ فعل / خلاف درزی
Ogive	نوکدار محراب / گاؤں
Olfactometer	بو پیما
Olfactorium	حیطہ شامر
Olfactory	شمی
Olfactory area	حیطہ شم
Olfactory bulb	بصلہ شم
Olfactory cell	خلیہ شم
Omen	فال
Omission, error of	خطائے ترک
Omnibenevolence	کوئی بھی
Omnipotence	قدرت کل
Omnipotence, theory of	نظریہ قدرت کل
Omni-presence	حضور کل - ہم جان
Omniscience	علم کل

Omnitemporal sentence	کل زمانی قول
One-egg (adj)	یک بیضی (توأم)
Oneirophrenia	خواب گرفتگی
One way screen	یک طرفہ پرده
Onomato poetic theory	صوت معنوی نظریہ
Ontogenetic function	ذات مہاد فلسفیہ
Ontologism	رجھد یاتی مسلک
Ontology	وجود یافت
Onus probandi	بار ثبوت
Opaque projectors	در صندلابروجیکٹر
Open loop	کھلا حلقة
Operant conditioning	مالی احرازم
Operation	عملیہ
Operational definition	تفاعلی تعریف
Operational problem	تفااعلی مسئلہ
Operationism	عملیت
Operator, truth function	صرافت فلسفیہ عامل
Opinion	رأی
Opinion, Scientific	سائنسی رائے
Opinion, unscientific	غیر سائنسی رائے
Opinionnaire	رأی نامہ
Opinion panel	رأی پینل
Opponent process (Theory of colour vision)	عمل خالفات رہنمائی کا نظریہ
Opportunism	موقع پرستی / این ارتقی
Opposite	ضد
Opposition	مخالفت

Ophthalmometer	بصارت پیا
Ophthalmophigia	چشمی فائع
Optic chiasma	بصری تفالت
Optic disc	بصری قرص
Optimism	رجایت
Optimism, hedonistic	لذتیستی رجایت
Optimum	حد انساب
Optimum level	سطح حد انساب
Optional	اختیاری
Oracle	ہم غیب
Oral dependence	دہنی انحصار
Oral exotic stage	دہنی موصال حالت
Oral introjection	دہنی تدخل
Oral stage	دہنی منزل
Oral teaching	زبانی تدریس
Order	نظم و سلسلہ ترتیب
Order, ideal	مثلی نظم
Order, rank	ترتیب مراتب
Order of merit, method of	طرائق مراتب یافت
Ordinal	ترتیبی
Ordinal position	ترتیبی مقام
Ordinance	آرڈیننس
Oridnate	معین (ریاضی)
Orenda	اورندا
Organ	ضفر
Organic	حیائی ناسہباقی صنوہاتی ضھوی
Organic inferiority	ضھویتی کتری

Organic need	حیاتی ضرورت
Organic Pathology	عстроیتی مرضیہ
Organic Psychosis	عстроیتی جنون
Organic selection	عstroیتی انتخاب
Organic sense	عstroیس
Organic structure	عstroیاتی ساخت
Organic unities, principle of	حیاتی یا عstroیاتی وحدتوں کا اصول
Organic value	حیاتی قدر - نامیاتی قدر
Organic whole	حیاتی کل - عstroیاتی کل
Organism	عstroیہ
Organism-environment relationship	عstroیہ ماحول تعلق
Organismic theory	عstroیاتی یا نامیاتی نظریہ
Organismic variable	نامیاتی متغیرہ
Organization	تنظیم
Organization, functional	تفاقی تنظیم
Organization, line	مرتبہ دار تنظیم
Organization, line & staff	افسرداری مکمل تنظیم
Organization, line staff	عملہ تنظیم
Organization climate	نقائص تنظیم
Organizational structure	تنظیمی ساخت
Organ neurosis	عstroیتی خلل اعصاب
Organon	منہاج
Orgy	ستاذ رقص
Oriental	شرقی
Orientation	شناختی / شناخت رُنگ
Oriented course	تعارفی کورس
Original	اولین - اصلی - اچھتا۔

Original nature	بنیادی نظرت
Original sin	اویں گناہ حقوقی گناہ
Originality	اچع
Orthodoxy	راسخ الاعتقادی
Orthogenesis	ارتقاء صبح
Orthogonal	قائم بالذات
Orthogonal axis	قائم بالذات متساطع
Orthogonal solution	قائم بالذات حل
Orthopsychiatry	علم نفسی اطفال
Ossicle	استخوانچ
Ossicles, auditory	سمعی استخوانچہ
Other directed	دگر بہای
Other regarding impulse	دگر معاٹی تحریک
Otherworldliness	اخرویت / دنیا گزیزی
Otoliths	کسٹرینے
Otosclerosis	استخوان گوش
Ought	واجب
"Ought"-judgement	واجب تصریت
Outer-directed (person)	بردن رخ
Out-group choice	دگر گروہی انتخاب
Outlines	خاکہ
Outness	خارجیت
Out of class activities	بردن جاعت مشاغل
Oval window	بیضوی در پچ گوش
Ovary	کیسہ تنم - بیضہ دان
Over compensation	بیش تلاذ
Over concern	بیے جا خوندی تلاذی بے جانتن خاطر

Over dependence	از مدار اعتماد
Over generalization	بے جا تعمیم
Over head projector	بالائے سر پر دھیکٹر
Over individual (adj) (N)	فوق فرد، فوق الفرد
Over-lapping	محلط
Over man	فوق الیشتر
Over mind	بالائے ذہن
Over-protection	بے جا تحفظ
Over soul	روح کل
Overt	ظاہر، عیان
Overtone	بیش آہنگ
Ovum	بیضہ
Ovum, fertilized	بارور بیضہ
Oxytocin	آکسیتوسین

P

Pacifism	نمائندگی
Pacing in learning	تعین رفتار آموزش
Pacinian corpuscle	پیسینین جسمیہ
Paganism	نظرت پرستی
Pain spot	نقطہ درد
Painel comparison	زوجی تقابل
Paleocerebellum	صیغہ دینیخ
Paleocortex	عین قشر
Pallium	پالیم
Palpebral	چشمی (انٹک کے پہنچ سے متعلق)
Panactivism	ہم فعالیت
Pancreas	لبلہ
Panic reaction	قانون تعزیرات
Panlogism	دہشت رو عمل
Panobjectivism	ہمارا قیمت
Pan phenomenalism	ہمارا مظہریت
Panpneumatism	نظریہ وحدت عقل و دعویٰ
Panpsychism	ہمارہ نفسیت
Panóntheism	نظریہ ہمارا اؤست

Pan-satanism	پیر شیطانیت
Pantheism	بهر از اوست
Pantheon	مجموعه خدایان
Pantomimic	خاموش ڈرامہ
Papilla	گومڑا
Paradigm	مثال خارجیکل شال
Paradox	آوال متفاہر - قول مستبعد
Paradoxical warmth	استباری حرارت
Paradox of asceticism	تفاہر رہیانیت - رہیانیت کا تفاہر
Paradox of Hedonism	تفاہر لذتیت - لذتیت کا تفاہر
Paradoxical	تفاہر - مستبعد
Paradoxical cold point	تفاہری نقطہ بردت
Paraesthesia	غیر طبیعی احساس
Paragraphia	اختلال حجریہ
Parakinesis	غیر طبیعی حرکت
Paralexia	اختلال خواندنگی
Parallelism	متوازیت
Parallelism, departmental	شعبہ جاتی متوازیت
Parallelism, psychoneural	نفسی عصبی متوازیت
Parallelism, psychophysical	نفسی طبعی متوازیت
Parallelism, universal	کلی متوازیت
Paralogism	تیاس فاسد / مخالف استدلال
Paralysis	نافع
Paralysis, flaccid	استرجائی نافع
Paralysis, spastic	تشنجی نافع
Paralysis agit	رمث
Paralytic dimentia	فالجی ذہنی فتر

Parameter	پیسرا میٹر
Paramnesia	نیکان معنی
Paranoia	پیر انویا۔ وہم منظم
Paranoid	پیر انوی پر انوی
Paranoid, hyper- sensitivity	پیر انوی بیش حسی
Paranoid personality	پیر انوی شخصیت
Paranoid reaction	پیر انوی رد عمل
Paranoid state	پیر انوی کیفیت
Paraplegia	زیرین اعضا فائج
Parapraxis(Para-praxia)	لغزش
Parapsychic	وراء نفسي
Parapsychology	وراء نفسيات
Parathormone	پیر انھور موں
Para-throid	وراء درقی قدر در
Parental rejection	والدین تاقبیلیت
Parents, acceptant	قبول کرنے والے والدین
Parents, impersonal	بے تعلق والدین
Parents, over involved	از حدود الاستہ والدین
Parents, permissive	اباحی والدین
Parents, rejected	نا قبول والدین
Parents, restrictive	مزاحم والدین
Parethosis	غیر طبعی احساس
Parietal lobe	فرسلی لختہ دماغ
Parkinson's Disease	پارکسونی مرض۔ مرض رعشہ
Parkinsonian syndrome	پارکسونی تجوہ علامات
Parkinsonianism	پارکسونی مرض
Parorexia	میلان تا خوردنی

Parsimony, law of	قافرلن کنایت
Partial reinforcement	جزوی تقویت
Participant	شرکیک
Participant, active	شرکیک فاعل
Participant observation method	شارکتی مشاہدے کا طریقہ
Participant observer	شرکیک ناظر
Participation	شرکت
Participation, pupil	شرکت طلبہ
Participative management	مشارکتی انتظام / انتظامیہ
Participatory leadership	مشارکتی قیادت
Particular	خصوصی - جزوی
Particulate	ذرتوی
Pass course	پاس کورس
Passion	شدید جذبہ - جوش - دافع شوق
Passions, direct	بلاؤ اسٹھ شوق
Passions, indirect	پالاؤ اسٹھ شوق
Passive-aggressive reaction	الفعالی جارمانہ رفتہ عمل
Passive courage	الفعالی جبرات
Passive Resistance	الفعالی مزاجمت - متعادمت محبوہ
Paternalism	مریپانہ نظام
Paternalistic leadership	پدرپانہ قیادت
Pathetic nerve	احساس انگریز عصب
Pathogenic	مرض آفرین
Pathogenic interaction	مریضانہ تناول
Pathogenesis	آفرینش امراض -
Pathological intoxication	مریضانہ مدھوشی
Pathological lying	مریضانہ دروغ گوئی

Pathological personality type	مریفہ نہ شخصیت ٹاپ
Pathology	علم الامراض مریفیات
Patience	صبر - تحمل
Patient	صابر - مریف
Patriarchal society	پدری سماج
Patriotism	حب وطنی
Patrilinealism	مسیحی الہی مشارک اذیت
Pattern	رضع
Pattern reaction	تشکل روعل
Parable	سبق آموز حکایت
Pavolov's experiment	پاولوں کا تجربہ
Pedagogical readings	تعلیماتی نگارشات
Pedagogical school	مدرسہ علم تعلیم
Pedagogical technikum	مدرسہ فن تعلیم
Pedagogy	علم تعلیم / تعلیمات
Pedagogy, experimental	افنتیاری تعلیمات
Pediatrician	معائج الہمال
Pediatrics	علم معائج اطفال
Pedology	علم الاطفال
Peer group interaction	ہم سرگروپ تعلیم
Pellagra	پیسلا گرا (ایک جلدی بیماری)
Penalty	نفریز - جرمان
Penance	یاضت - کفارہ
Penis envy	شیک آنہ مردی دھورت کے دل میں)
Penitence	استغفار - نہادت گناہ
Penology	علم تعزیرات / تعزیرات

Pentothal interview	پنٹو تھل اسکرولو یونیورسٹی کی دوائے ذریعے)
Pepsinogen	غدرہ سینم کا ایک نادہ
Peraccideus Predication	الطلق عرض بیحیثت محصول
Percentile	فی صدر درجہ ()
Percentile band	فی صدر درجہ پیٹھ
Percept	درک
Perception	اردراک
Perception, causal theory of	علیٰ نظریہ ادراک
Perception, creative theory of	خلیقی نظریہ ادراک
Perception, extra sensory	ورایتی احساس ادراک
Perception, quantitative	کمی ادراک
Perception, sense	حسی ادراک
Perception, veridical	ادراک صحیح
Perception, visual	بصری ادراک
Perception time	ترت ادراک
Perceptual	ادراکی
Perceptual constancies	ثبات ادراکات
Perceptual intuitionism	ادراکی وجدانیت
Perceptual learning	ادراکی تعلیم
Perceptual patterning	ادراکی تشکیل
Perceptual space	ادراکی مکان
Perceptual thinking	ادراکی فکر
Perfectibility	کمال پذیری
Perfectionism	نظریہ تکمیلیت
Perfectionism, individualistic	افرادی تکمیلیت
Performance tests, point scale of	کارگزاری آزمائش کا پوائنٹ اسکیل

Preformative utterance	محک عمل قول
Performative verb	منظہ عمل فعل (معنیات)
Period	میعادار- گھنٹہ
Period, evaluation	اندازہ قدر کا گھنٹہ
Period, free	خالی گھنٹہ
Periodicity theory (of pitch discrimination)	نظریہ روریت و تقدیر امتیازی آہنگ کا
Peripateticism	مشایئت
Peripheral	حاشیائی
Permeability	سرایت پذیری
Persecution	ایمانارسانی
Perse	فی نفیہ
Perseity	فی نقضیت
Perseveration	مدراومت - تکرار غیر اختیاری
Persistence	استطلاع
Person	شخص
Persona	شخصیت غایبی
Personal compliance	ذہانی تعییل
Personal document	شخصی دستاویز
Personal document analysis	تجزیی شخصی دستاویز
Personal equation	فرق شخصی
Personal equation, absolute	مطلق فرق شخصی
Personal equation, relative	امانافی فرق شخصی
Personal idealism	شخصی تصوریت
Personal identity	مینیت ذات (فلسفہ)
Personalism, monistic	شناخت ذات رنفیات
Personalism, phenomeno- logical	وحدتی مسلک شخصیت

Personalism, teleological	غایتی مسلک شخصیت
Personality, alternating	متباول شخصیت
Personality, anti-social	سماج دشمنی شخصیت
Personality, authoritarian	آمرانه شخصیت
Personality, compulsive	اجباری شخصیت
Personality, passive-aggressive	الفعال جارحانه شخصیت
Personality, psychopathic	نفسی مریضانه شخصیت
Personality, schizoid	جنونی شخصیت
Personality type, anomic	لا اصول شخصیت ناپ
Personality-autonomous	خود بخوار شخصیت
Personality psychology	نفیات شخصیت
Personality type	شخصیتی ناپ
Personal realism	شخصی حقیقت
Personal specification	شخصی تصریع
Personal value	شخصی قدر
Personalism	مسلک شخصیت
Personalism, absolutistic	سلطان مسلک شخصیت
Personalism, critical	تنقیدی مسلک شخصیت
Personalism, patitheistic	بهادستی مسلک شخصیت
Personality	شخصیت
Personality, anuistic	خود گرفتار شخصیت
Personality, dissociated	انزوا قی شخصیت
Personality, dual	دو هری شخصیت
Personality, multiple	تعددی شخصیت
Personality, split	منقسم شخصیت
Personality, stereo typed	پیشگوئی شخصیت
Personality, adjustment	شخصیت مطابقت

Personnel	علم
Personnel management	استلام علم
Personnel research	علم تحقیق
Person-to-group relationship	رشتہ فرد بہ جماعت
Person-to-person relationship	رشتہ فرد بہ فرد
Perspective	شناخت
Perspectivism	شناختیت
Persuasibility	ترغیب پذیری
Persuasive	ترغیبی
Pervasive	ساری
Pervasiveness	ساریت
Perverse	کجھ ہنار
Perversion	کجردی
Perversity	کجھی / ابرہنادی
Pervert	کجرد
Pessimism	تفویطیت
Pessimistic voluntarism	قمزی ارادیت
Petit, mal	خفیت صرع
Petites perception	سیہم اور اک
Phallic phase	ذکری منزل
Phalus	ذکر
Phantasm	خیالی پیغام
Phantasy	واہیہ
Phantom limb (Or- extremity)	احساس عضو غیر موجود
Pharma psychology	مطالعہ نفی اثرات ادویات
Pharmacopsychosis	جوون ادویہ
Phasic contraction	متغیر سکردن

Phenobarbital	فیتوباربیٹال (زمیند کی دوا)
Phenomenon	منہج
Phenomenon, convergent	معطف منہج
Phenomenon, divergent	مختصر منہج
Phenomenon, marginal	حاشیائی منظاہر
Phenomenon, natural	طبعی منظر
Phenomenon, seriated	مرتب منظاہر
Phenomenalism	منہجیت
Phenomenology	منہجیات
Phenothiazine	فیزٹھائزین (ایک کیمیائی مرکب)
Phenotype	فیزٹھائپ (رماعنی ٹاپ)
Phenylpyruvic Amentia	فینل پارڈی نیان
Phenylpyruvic dementia	فینل پارڈی / فطوری عقل
Phenylpyruvic oligophrenia	تلخ کاری
Philanthropy	سیل پا
Philia	حب انسانی
Philosopher	فلسفی
Philosopher king	فلسفی حکوم
Philosophical intuitionism	فلسفیان وجدانیت
Philosophy	فلسفہ
Philosophy, analytic	تجزیاتی فلسفہ
Philosophy, commonsense	فلسفہ فہم عام
Philosophy, contemporary	معاصر فلسفہ
Philosophy, critical	انتقادی فلسفہ
Philosophy, first	اولین فلسفہ
Philosophy, legal	قانون کی فلسفیات بیان
Philosophy, linguistic	سامانی فلسفہ

Philosophy, mosaic	موسوسی فلسفہ
Philosophy, natural	طبیعی فلسفہ
Philosophy, patristic	فلسفہ آباء کے کتاب
Philosophy, political	فلسفہ سیاست
Philosophy, scientific	سائنسی فلسفہ
Philosophy, social	سماجی فلسفہ
Philosophy, speculative	تعقیل فلسفہ
Philosophy, synthetic	ترکیبی فلسفہ
Philosophy, transcendental	ساو رانی فلسفہ
Philosophy of discontinuity	فلسفہ عدم ثبات
Philosophy of education	فلسفہ تعلیم
Philosophy of effort	فلسفہ شعر اسعنی
Philosophy of History	فلسفہ تاریخ
Philosophy of language	فلسفہ مان
Philosophy of law	فلسفہ قانون
Philosophy of religion	فلسفہ مذہب
Philosophy of science	فلسفہ سائنس
Phi-Phenomenon	اشتباه حرکت
Phlegmatic	بلغمی
Phlegmatic person	بلغمی مزان
Phobia	خوف
Phobic reaction	خوبی ریڈیل
Phoneme	صوت دہم اور اک دلفیات (فونیم (لسانیات))
Phonometer	صوت پیما
Phonosphere	بصیری دائرہ فور
Photochromatic interval	بصیری وقتی رنگ و فور
Photo-kinesis-	حرکت فور

Photo-laxis	کم نوری
Photometer	نور سنج
Photometry	ریگ پیانی
Photophobia	خون روشنی
Photopic luminosity	فقط قوت تابندگی
Photopic vision	رنگ مین بصیر
Photo-topism	نور میلان
Photo-tropic	نور ماکل
Phrenology	علم قیافه سر
Phronesis	دنیوی عقل
Phylogenetic function	فرمی وظیفہ
Phylogenetic scale	بوعی سلسلہ مارچ
Physical	جسمانی طبی
Physicalism	نظریہ تسبیہ طبی
Physiognomist	قیافہ شناس
Physiognomy	علم قیافہ
Physiological limit	حد عمل جسمانی
Physiology	عصریات
Physio-therapy	عضویاتی طریقہ علاج
Physique	جسمانی ساخت
Physis	فطرت - عالم - طبی
Piamater	دماغ حرام مغز جمل
Pick's disease	پیک مرف
Pictograph	تصویری تحریر
Picture-frustration test	نامرادی کا تصویری آزمائش
Picture thinking	تصویری فکر
Pie diagram	پائی خاکر

Pietism	اتقائیت۔ نمائش اتقا
Piety	اتقا
Pineal gland (body)	دماغ کے زرین حصہ کا ایک غدد
Pinna	پرگوش
Pistology	اعتقادیات
Pitch	آہنگ
Pituitary (Gland)	پھوٹری (غدد) (ر)
Pity	ترس
Pituitary, posterior	عقبی غدد
Placebo	حبلہ تسلی
Placement	امداد طازہ ست
Placement bureau	روزگار رفتہ
Placement service	امداد روزگار
Plastic	تشکیل پذیر
Plastic period	تشکیل دور
Plasticity	شکل پذیری
Platekurtic	بیش قوی خط
Plateau	سطح توقف
Platitude	پیش اندازہ قول
Platonism	افلاطونیت
Platykurtic	قریب سطح خط
Play	کھیل
Play random	بے ضابطہ کھیل
Play, reflective	غور انداز کھیل
Play ground	کھیل کا میدان
Play technique	کھیل تکنک
Play theory	نظریہ کھیل

Pleasure	لذت
Pleasure principle	اصول لذت
Plethysmograph	مترا مخون پیا
Plotimism	فلو طین فلسفہ
Pluralism	کثرتیت
Pluralism, spiritualistic	روحانی کثرتیت
Plurality	کثرت
Plures interrogationis	چندسوالی مخالط
Pneuma	رم - سانس
Pneumatology	نظریہ عقول - نظریہ روح القدس (عیوی دنیا)
Pneumograph	نومر گراف
Pneumography	ترسیم رم
Poiesis	خلیقی عمل یا صلاحیت
Point-event	عینی و توعی
Point instant	زمان مرکان نقطه
Point scale	پوائنٹ اسکیل
Point to point project	نقاط ب نقط اطلال
Polarity	تفاوت قطبین
Polemics	محارلہ
Politology	علم حکومت
Polydaemonism	دیو پرستی
Poly-graph	عنشوی اعمال پیا
Poly-lemma	کثیر جهات دلیل
Poly neuritis	چند عصبی ورم
Polysyllogism	فیاس مرکب
Polytheism	نفریہ کثرت مسدر
Pons	بین دو شعبہ عصب اعصاب

Poor boys fund	غرسی بچوں کا فنڈ
Porter's law	پورٹر قانون
Position centrality	موقوفی مرکزیت
Positive duty	فرض عین
Positive ethics	مثبت اخلاقیات
Positive freedom	مثبت آزادی
Positive morality	مثبت اخلاق
Positive proof	تطفی ثبوت
Positive science	ایشان سائنس
Positivism	ایثیاتیت
Positivism, logical	منطقی ایثیاتیت
Possibility	امکان
Possible	ممکن
Post-central area	بعد مرکزی رقبہ
Post-central gyrus	بعد مرکزی نشیب
Posterior parietal area	عقبی وسطی رقبہ دماغ
Post hoc-ergo propter hoc	متناطل علیت مقدم
Post-partum psychosis	بعد ولادت جنون
Post-predicament	بعد سفر طریق مقولات
Post-socratic	بعد سقراطی
Post-testing	بعد آزمائش
Post-traumatic disorder	بعد صدمہ اختلال
Postulate	اصول موضوع
Postulate of non- actuality	غیر واقعیت مسلم
Postulate of permanence	ثبات مسلمہ
Postulate of possibility	امکان مسلمہ
Postulate of social' objectivity	سماجی معروضیت مسلمہ

Pragmatic	علیتی
Pragmatic absolute	عملیت مطلق
Pragmatism	نظریہ عملیت
Preadolescence	قبل نریانی
Pre-analytic	قبل تجزیاتی
Precedent	نظریہ- مابین
Pre-central area	قبل مرکزی رقبہ
Pre-central gyrus	قبل مرکزی نشیب (دماغ)
Precept	نصیحت- قول
Precocity	پیش ری
Precognition	قبل درقوت
Preconception	پیش تصور
Pre-conscious	قبل شعور
Precritical	قبل تقدیری
Predestination	عنتیہ تقدیر
Predetermination	نظریہ تعین ماقبل
Predicables	امکان معقولات
Predicament	محض
Predicate	محمول
Predicate, relational	نسبتی محمول
Predicate, triodic	ثلاثی محمول
Prediction	پیش قیاسی پیش گوئی
Predication, abstract	مجرد محولیت
Predication, accidental	حادثی محولیت
Predication, analogical	تشیل محولیت
Predication, complete	مکمل محولیت
Predication, dyadic	اثناان محولیت

Postulate of value	قدر مسلمه
Postural reflex	انداز جسم اضطراریه
Posture	انداز جسمانی - ذہنی
Potency	قوت
Potential	بالغة
Potential, compound action	مرکب عمل امکانی قوت
Potential, electro- chemical	برقی کیمیائی امکانی قوت
Potential, graded	درج وار امکانی قوت
Potential, local	مکانی امکانی قوت
Potential, post synaptic	بعد اتصال امکانی قوت
Potential, receptor	آخذ امکانی قوت
Potential, subthreshold	تحت ولیمی امکانی قوت
Potential, summatting	مجموعی امکانی قوت
Potential, executive	عملی امکانی قوت
Potentiality	بالغة وجود
Power	طاقت اقتدار
Power delegation	تفویض اختیارات
Practical duty	عملی فرض
Practical imperative	امر عملی
Practical level	عمل سطح
Practical reason	عقل عملی رکانت وغیره)
Practical science	عملی سامن
Practical syllogism	عملی قیاس
Practical virtue	عملی خیر
Practical practice	مشق - عمل
Practical curve	خط مشق
Practical period	مدت مشتر

Predication, equivocal	زد معانی محولیت
Predication, essential	لازمی محولیت
Predication, formal	صوری محولیت
Predication, incomplete	ناممکن محولیت
Predication, intrinsic	ذاتی محولیت
Predication, natural	طبعی محولیت
Predicate non natural	غیرطبعی محولیت
Predicative variable	محولی متغیرہ
Predicative view	محولی نظریہ
Predilection	میلان طبع
Predisposition	فطرنی میلان
Pre-existence	وجود پیش
Prefect	پر فیکٹ - مائیسٹر
Preference record	ترجیحی ریکارڈ
Preferential treatment	ترجیحی برداشت
Preformation	تشکیل سابق
Preformationism	نظریہ تشكیل سابقہ
Prefrontal lebectomy	پیش دماغی لختہ جراحت
Pregang age	قبل گردی عمر
Prehension	درک
Prehension, conceptual	تصوراتی درک
Prehension, negative	منفی درک
Prehension, physical	جسمانی درک
Prehension, positive	مبہت درک
Prejudice	تعصب
Premise	مقدمہ
Premise, major	مقدمہ کبھری

Premise, minor	مقدمہ صغیر
Premises, transposition of	تسلیل ترتیب مقدمات
Premonition	پیش آگھی
Premotor area	قبل حرکی رقبہ
Prenatal influence	قبل بیانش اثر
Pre-oedipal phase	قبل ایڈپی لپس مرحلہ
Preparation	تیاری
Preparatory interval	تیاری وقفہ
Preparatory set	حالت آمادگی
Preperception	آمادگی اور اک
Pre-philosophy	قبل فلسفہ
Presbyophreia	سٹھنار غاص کو عورتوں کا)
Pre-scientific view	قبل سائنسی نظریہ
Prescription	بجوزیز
Prescriptive language	تجویزی زبان
Presentation	احصار پیش کرنا
Presentational continuum	احصاری سلسہ
Presentationism	احصاریت
Presentative	احصاری
Preservation	تحفظیہ
Pre-socratic	قبل سقراطی
Prestige figure	علمامت رفار (شخصیت)
Presumption of fact	افراض واقعہ
Pre-supposition	پیش مفروضہ
Preternatural	غیر طبی
Pre-testing	قبل آزمائش
Pretest, diagnostic	شخصیتی ابتدائی جانچ

Pre-totemic stage	قبل ٹوٹم منزل
Prevarication	انحراف از صداقت
Preventive supervision	السداری نگرانی
Pride	غزوہ۔ غزر
Priest craft	پردوہت فن
Prima facia duty	صریحی فرضی
Prima facia obligation	واجب صریحی فرضیہ
Primary abilities, theory of	بنیادی قابلیتوں کا نظریہ
Primary anxiety	بنیادی تشویش
Primary function	بنیادی ذلتیہ
Primary rule	بنیادی قانوں
Prime mover	محرك اول
Primitive community	اولیٰ برادری
Primitive morals	اولیٰ اخلاق
Primitive vigilance	اولین چکسی
Primitive virtue	اولیٰ نیتی
Primitivism	اولیٰ نیت
Primitivism, chronological	زمانی اولیٰ نیت
Primitivism, cultural	تہذیبی اولیٰ نیت
Primitivization	اولیٰ بنانا
Primordial	اولین
Principal	پرنسپل
Principal (adj)	خاص۔ اصل
Principal co-ordination	اساسی تنسيق
Principium individualionis	اصول تفرد
Principle	اصول
Principle, first	اساسی اصول۔ اصول اول

Principle, regulative	تعریفی اصول
Principle of absorption	اصلوپ جذب
Principle of association	اصول تلازم
Principle of commutation	اصول تبادل
Principle of composition	اصول ترکیب
Principle of distribution	اصول تقسیم
Principle of simplification	اصول سهیل
Principle of textology	اصول تکرار معنی / معالطہ معنی
Principle of utility	اصول افادت
Priority	تقدیر
Prison psychosis	زندانی خون
Privacy epistemic	علمی غیر مشترک پیش
Private attitude theory	نظریہ روایت شخصی
Privation	محرومی
Privilege	خصوصی حق / خصوصی مراعات
Pro-altruistic sentiment	محبیت ہے فلاہی جذبہ
Pro-attitude	روایت موافقت
Probabiliorism	اگلبیت راخلاقیات
Probabilism	نظریہ احتمالیت
Probabilities, scale of	سیما زد احتمالات
Probabilities, series of	سلسلہ احتمالات
Probability	احتمالات احتمال
Probability, calculation of	حساب احتمال
Probability, complete	کلی احتمال
Probability, deductive	استخراجی احتمال
Probability, degree of	درجہ احتمال
Probability, estimation of	تحمییہ احتمال

Probability, inductive	استقرائي احتمال
Probability, joint	مشترك احتمال
Probability, measure of	پياسش احتمال
Probability, partial	جزوي احتمال
Probability, scientific	سائني احتمال
Probability, theory of	نظرية احتمال
Probable	اعلوب
Probandum	ثبت طلب
Probation	سيادي آزمائش
Problem	مسئله
Problem, christological	سيحياني مسئله
Problem, psychophysical	نفس جسماني مسئله
Prblematic	مشروط - متعلي - مسئللي
Problematic situation	مسئلي صورت حال
Problem-behaviour	مسئله خيرزگردار
Problem box	آزمائي بجز
Problem-check list	سؤال پرداز فهرست
Problem centred thinking	مسئله مرکز نظر
Problem solving conference	حل سائل مشاورت
Problem teacher	مسئله خيرز استاد
Procedural task	هام متعلق طرقيه کار
Procedural technician	طرقني کار تكنيك دان
Procedure	طرقيه کار
Procedure, brain storming	دماجي طوفان خيرزي طرقي کار
Process	عمل
Process, action taking	عمل تعين
Process, ascending	فرازي عمل

Process, complex	مرکب عمل
Process, converse	معکوس عمل
Process, descending	نزولی عمل
Process, dialectical	جدلیاتی عمل
Process, idea evaluation	اندازہ قدر خیال عمل
Process, idea getting	حصول خیال عمل
Process, information receiving	حصول معلومات عمل
Process, intervening	در بینی عمل
Process, links	ربطی عمل
Process, theory (mind)	نظریہ عمل رہا ہیت ذہن کا
Pro-chancellor	پرو چانسلر۔ نائب امیر جامعہ
Procreation	تناس
Proctor	پرائیکٹر
Prodigy	تجیب الکمال رکسی صلاحیت کے لحاظ سے
Prodrome	پیش طامت مرفن
Production curve	خط پیداوار
Product scale	پیداوار پہنچانہ
Professional ethics	اخلاقیات پیشہ
Professor	پروفیسر
Proficiency	ہمارت
Profile	نقشہ تابلیت۔ نقشہ شخصیت
Profile, individual	انفرادی تم رخی خاکہ
Profile, psychological	نفسیاتی خاکہ
Profit sharing	شرکت منافع
Proforma	پروفارما
Prognosis	تشخیص عوائد
Prognosis, educational	تعلیمی پیش اندازہ

Programme, activity	مشنکہ پروگرام
Programme, adjunct	لاحق پروگرام
Programme, enriched	سیر حاصل پروگرام
Programme module	پروگرام نمونہ
Progress	ترقی
Progressive	تمدیری - ترقی پسند
Progressive improvement	تمدیری پہتری
Progressive matrices test	پروگریو میٹریز ٹیسٹ
Progressive standard	تمدیری معیار
Progressivism	ترقی پسندی
Progressus ad infinitum	سلسلہ لامتناہی
Prohibition	امتناع
Project	منصوبی
Projected picture	اطلاعی تصویر
Projection	اطلاع
Projection, optical	بصري اخلاق
Projection area	مکان اخلاق
Projection centre	مرکز اخلاق
Projective	اطلاعی
Projective interpretation	اطلاعی تفسیر
Projective method	اطلاعی طریقہ
Proletarian morals	پرولتاری اخلاق
Promotion	فردع - ترقی
Prompting method	- طریقہ امداد یاد رہانی ۲
Proof	ثبوت
Proof, historical	تاریخی ثبوت
Proof, indirect	بالواسطہ ثبوت

Proof, moral	اخلاقی ثبوت
Proof, transcendental	مارکانی ثبوت
Proofs, theistic	خدا پرستانه ثبوت
Propaganda	پروپاگنڈہ
Propagation	افراشش - نشر
Propagation of species	افراشش نسل
Propensity	رجحان
Property	خاصہ
Property, collective	اجتمائی عامہ
Property, generic	جنسی خاصہ
Property, non-natural	غیر طبیعی خاصہ
property, specific	نوعی خاصہ
Prophet	نبی
Prophylaxis	احتیاطی علاج - احتیاطی تدبر
Propinquity	قرابت
Propitiation	رضاموجی
Proportion	تناسب
Proportionate equality	تناسبی مساوات
Proposition	قضیہ
Proposition, A.	تفصیل
Proposition, accidental	غیر لازمی قضیہ
Proposition, affirmative	ابیجانی قضیہ
Proposition, alternative	متارل قضیہ
Proposition, ampliative	توضیحی قضیہ
Proposition, analytic	تکلیل قضیہ
Proposition, apodectic	لازم قضیہ
Proposition, a priori	بدینی قضیہ - حضوری قضیہ

Proposition, assertoric	اقراری قضیہ
Proposition, atomic	جوہری قضیہ۔ اینٹی قضیہ
Proposition, basic	بنیادی قضیہ
Proposition, categorical	قطعی قضیہ
Proposition of class membership	قضیہ علاقہ صفتی
Proposition, compound	مرکب قضیہ
Proposition, conditional	مشروط قضیہ
Proposition, conjunctive	عطفی قضیہ
Proposition, E	قضیہ ع
Proposition, equivalent	متاثوںی قضیہ
Proposition, essential	مایوسی قضیہ
Proposition, exceptive	استثنائی قضیہ
Proposition, exclusive	مانع قضیہ
Proposition, experientia	تجربی قضیہ
Proposition, existential	رجحی قضیہ
Proposition, explicative	توضیحی قضیہ
Proposition, hypothetical	شرطی قضیہ
Proposition, I	قضیہ نئی
Proposition, implicative	انسانی قضیہ
Proposition, incorrigible	ناقابل توثیقی قضیہ
Proposition, indefinite	غیر معین قضیہ
Proposition, affirmative	قضیہ اثباتی غیر معین
indefinite	بے مسمی قضیہ
Proposition, indesignate	قضیہ بالمثال
Proposition, instantial	سالمانی قضیہ
Proposition, molecular	لازم قضیہ
Proposition, necessary	منفی قضیہ
Proposition, negative	

Proposition, 0	تئیه و
Proposition, ostensive	مشاهداتی تئیه
Proposition, particular	جزوی تئیه
Proposition, predesignate	پیش تسبیه تئیه
Proposition, primitive	بنیادی تئیه
Proposition, problematic	بخت تئیه
Proposition, real	راهنمی تئیه
Proposition, relational	نسبتی تئیه
Proposition, singular	افرادی تئیه
Proposition, synthetic	ترکیبی تئیه
Proposition, Universal	کلی تئیه (دکلیہ)
Proposition, verbal	لفظی تئیه
Proprioceptor	در عضله آخذ
Proprium	عمری صفت
Proselyte	نرم معتقد
Prospective	مستوق
Prospectus	پروپریتی
Prosperity	خوش حالی
Prosylllogism	قياس مقدم
Protanopia	بزر سرخ کوری
Protasis	مقدمہ
Protective action	تحفظی عمل
Protensity	امتداد
Protestantism	پروٹسٹنٹ مسلک
Protocol sentence	بنیادی حیدر
Protocol statement	بنیادی بیانیہ
Protoplasm	خرنماں

proto type	اولین مثال
Protozoa	یک خلیه عضریہ
Provisional supposition	عارضی مفروضہ
Proximity	قرب
Proximo distal direction	مرکز دور سمت
Prudence	صلحت اندریشی
Psalmist	زبورخوان
Pseudo-communication	کاذب ابلاغ
Pseudo-concept	تصویر خام
Pseudo-conditioning	کاذب التزام
Pseudocyesis	کاذب کیفیت حل
Pseudo emotion	کاذب جذب
Pseudo-feeble mindedness	کاذب ضعف عقل
Pseudo-hallucination	ناتمام و هم ادراک
Pseudo isochromatic plate	رنگ کوری کاذب تختی
Pseudolalia	لب مشابه حرکت
Pseudo-memory	کاذب یاد را شست
Pseudo mutuality	کاذب تعادل
Pseudophone	سمت صوت نما
Pseudo-proposition	قضیہ خام
Pseudo-psychology	نفیات خام
Pseudo-simplicity, fallacy of	مناظر سهل کاذب
Pseudo-solution	خام حل
Pseudo-statement	خام بیانیہ
Psychasthenic reaction	صنف نفسی رد عمل
Psyche	سائیک
Psychiatry	علاج امراض نفسی

Psychic	نفسی - روحیاتی
Psychical research	روحیاتی تحقیق
Psychic blindness	نفسیاتی کوری
Psychic deafness	نفسیاتی بہراپن
Psychic deter-minism	نفسی جبریت
Psychic elements	نفسی عناصر
Psychic equivalent	نفسی متساوی
Psychic tension	نفسی تنازع
Psychoactive drug (Psychoactive)	محک نفس درا
Psycho-analysis	تحمیل نفسی
Psychoanalytic therapy	تحمیل نفسی علاج
Psychobiology	نفسی حیاتیات
Psycho-developmental	نفسی نشوونما
Psycho-diagnostic	علم تشخیص نفسی
Psychodrama	نفسی ڈراما
Psycho-dynamic	نفسی حرکیات
Psycho-dynamic system	نفسی حرکی تنظیم
Psycho-genesis	نفس زایی
Psycho-graph	نقش صفات نفسی
Psychograph, job	پیشہ نفسی گراف
Psychoid	نفسی
Psychological determinism	نفسیاتی جبریت
Psychological dualism	نفسیاتی شویت
Psychological egoism	نفسی ایالیت
Psychological feed back	نفسیاتی بازرسانی
Psychological group	نفسیاتی گروپ
Psychological hedonism	نفسیاتی لذتیت

Psychological naturalism	نفیات فطریت نظریه
Psychological value theory	نفیات نظریه قدر
Psychological weaning	نفیات ترک انعام
Psychologism	نفایت
Psychologist	ماہر نفیات - نفیات دان
Psychologist's fallacy	مغالطه اهل نفیات
Psychology	نفیات
Psychology, abnormal	غیر طبیعی نفیات
Psychology, analytical	تجزیائی نفیات
Psychology, animal	حیوانی نفیات
Psychology, applied	اصلی نفیات
Psychology, behaviour	کرداری نفیات
Psychology, behaviouristic	کرداری نفیات
Psychology, business	نفیات کار و بار
Psychology, child	نفیات طفل
Psychology, clinical	کلینیکی نفیات
Psychology, comparative	مقابل نفیات
Psychology, criminal	نفیات جرم
Psychology, depth	نفیات عمق
Psychology, developmental	نفیات نمو
Psychology, differential	تفرقی نفیات
Psychology, Educational	تعلیمی نفیات
Psychology, experimental	امتحاری نفیات
Psychology, folk	وک نفیات
Psychology, functional	وظایفی نفیات
Psychology, genetic	تسلسل نفیات
Psychology, gestalt	گیشالٹ نفیات

Psychology, group	گروپ نفیات
Psychology, hormic	ہارمک نفیات مقصودی نفیات
Psychology, individual	افرادی نفیات
Psychology, industrial	صنعتی نفیات
Psychology, introspective	نفیات مشاہدہ باطن
Psychology, legal	قانونی نفیات
Psychology, mathematical	ریاضیاتی نفیات
Psychology, medical	طبی نفیات
Psychology, military	عسکری نفیات
Psychology, objective	معروضی نفیات
Psychology, philosophical	فلسفیانہ نفیات
Psychology, physiological	عضویاتی نفیات
Psychology, rational	عقلی نفیات
Psychology, social	سمाजی - نفیات
Psychology, Statistical	شماریاتی نفیات
Psychology, structural	ساختی نفیات
Psychology, subjective	موروثی نفیات
Psychology, vocational	نفیات پیشہ
Psychometrics	پیمائشی نفیات
Psychometry	نفیاتی پیمائش
Psycho-mimetic drug (Psychomimetic)	بیوک کیفیت نفسی دوا
Psychomotor epilepsy	نفسی حرکی اصراع
Psychoneurosis	نفسی اختلال مفسی
Psychoneurotic depression	نفسی اعصابی افسردگی
Psychoneurotic reaction	نفسی اعصابی ردعمل
Pschonomics	ماحوں نفیات

Psychopharmacology	نفسی علم الادرولیہ
Psychopath	نفسی مریض
Psychopathic	متعلق برض نفی
Psychopathology	مراضیات نفسی
Psychopathy	مرض نفسی
Psycho-Physical parallelism	نفسی جسمی متوازیت
Psychosexual	نفسی جنسیاتی
Psychosis	جنون
Psychosis, functional	وظائفی جنون
Psychosis, toxic	سمی جنون
Psycho-social	نفسی سماجی
Psycho-social crisis	نفسی سماجی بحران
Psycho-somatic	نفسی جسمانی
Psychosomatic illness	نفسی جسمی بخاری
Psychosomatic medicine	نفسی جسمی دروا
Psychosomatic symptom	نفسی جسمی علامت
Psychotechnology	نفسی ٹکنولوچی
Psychotheism	نفسی اہلیت
Psychotherapy	نفسیات ملاج
Psychotic	جنون
Psychotic depressive reaction	جنونی انسردگی رد عمل
Psychotic reorganization	جنونی بازنظم (شفقیت کی)
Psychotogen	سانکھڑو جن
Psychotomimetic drug	محرك کیفیت جنون دروا
Psychotropic drug (Psychotropic)	محرك نفس دروا
Ptolemaic hypothesis	بظیموسی فرضیہ
Pubertal	بلوغی

Pubertas praecox	قبل از وقت بلوغ
Puberty	آغاز بلوغ
Puberty rites	رسم بلوغ
Public attitude theory	نظریه رای عمومی
Public good	فلاج عام
Publicity, epistemic	علمی مشترک
Public ownership	عمومی ملکیت
Public verification	تصدیق عام
Pugnacious	نزاکتی پسند
Pugnacity	نزاکتی پسندی
Punitine justice	تعزیری عدل
Pupilage	طالب علمی
Pupil centred	شاغرد عمدہ شاگردی
Pupil load	بار متعلم
Pupil teacher	زیر تربیت متعلم
Pure chance theory	نظریه اتفاق محسن
Pure reason	عقل محسن
Purification	ترکیب
Purilsm	پچکاندن
Puritan	متفکث - مشوه پسند
Puritanism	تفکث
Purity of pleasure	خالصیت لذت
Purkinje phenomenon	پرکین مظہر
Purple	ارغوانی
Purpose	مقصد
Purposive	مقصدی با مقصد
Purposive action	مقصدی عمل - با مقصد عمل

Purposiveness	مقصدیت-بامقصدی
Purposivism	نظریہ مقصدیت
Pursuit of pleasure	جستجوے لذت
Pursuit, pleasure of	لذت سے-لذت جستجو
Pursuit meter	تعاقب پیا
Puzzle box	آزمائش قربہ
Pyknic	فیل انداز
Pyramidal tracts (system)	اہرامی نالیاں (رنظام)
Pyramid puzzle	اہرامی معہر
Pyromania	خطبوط آتش زنی
Pyrophobia	خوف آتش

Q

Quakerism	مسک کوکر دیسائیوں کا ایک فرقہ
Qualifying	تجدیدی
Qualitative difference	کیفی فرقہ
Qualitative hedonism	کیفی لذتیت
Qualitative mark	کیفی نشان
Qualitic coexistence of	جمع صفات
Quality	کیفیت - صفت
Quality, chance	غیر لازمی صفت
Quality, derivative	ماخذی صفت
Quality, emergent	نجائی صفت
Quality, extensive	کیفیت وسعت
Quality, intensive	کینیت شدت
Quality, primary	بنیادی صفت
Quality, secondary	ثانیوی صفت
Quality, tertiary	ثلاثی صفت
Quanta, theory of	نظریہ مقادیر
Quantification	تعین کیت
Quantification, multiple	مرکب تعین کیت
Quantification of predicate	تعین کیت معقول

Quantifier	کیت نا
Quantifier, existential	وجودی کیت نا
Quantifier, numerical	عددی کیت نا
Quantifier, quasinumerical	شبہ عددی کیت نا
Quantifier, universal	کلی کیت نا
Quantitative difference	کمیتی فرق
Quantitative hedonism	کمیتی لذتیت
Quantitative mark	کمیتی نشان
Quantitative principle	کمی اصول
Quantity	کیت مقدار
Quantile	ربع
Quasi	شبہ
Quasi conscience	شبہ فحیہ
Quasi-mechanical	شبہ مکانیکی
Quaternio terminorum (fallacy of four terms)	متاطله حدود رابعہ
Question, begging the	ادعائے مدعای
Question, cognitive	دتوئی سوال
Questionnaire	سوال نامہ
Questionnaire studies	تحقیق بذریعہ سوالنامہ
Quibbling	فظ بازی
Quiescence	سکون
Quietism	عزالت پسندی
Quintessence	اصول الاصل

R

Race	نسل
Radiation	اشعاع
Radicalism	انقلابی پسندی
Radix	اساس
Rage	غیر نظر
Random	بے قاعدہ بے سلسلہ
Random sample	بے سلسلہ نمونہ
Range	حیطہ
Rank, decile	عشری مقام
Ranking method	تعین مقام طریقہ
Rapport	رابطہ خاطر
Rapture	سرخوشی
Rarefaction	تلطیف
Rate	تعین درجہ
"Rate-busters"	بلیش لار مزدور
Ratee	درجہ بند
Rater	تعین کنندہ
Rating	درجہ پیمائی / درجہ بندی
Rating, behaviour sample	کو درجہ دار نمونہ تعین درجہ

Rating, descriptive adjective	بیانیہ دسخی تین درجہ
Rating, jury	جموری تعین درجہ
Rating, multiple step	کثیر منازل درجہ پہنچانی
Rating, numerical	اعدادی درجہ پہنچانی
Rating, pooled independent	مجموع افزادی تعین درجہ
Rating scale, alphabetical	پہنچانہ ابجدمی درجہ پہنچانی
Rating schedule	درجہ سندی پہنچانہ خاکہ
Rating scale	درجہ پہنچانی
Ratio cination	استدلال۔ استدلال عقل
Ratio cognoscendi	وجہ دوقت
Ratio essendi	وجہ رچود
Ratio estimation, method of	طریقہ تخمین نسبت
Rational	عقلی
Rational benevolence	معقول خیرخواہی
Rational equivalence, method of	طریقہ عقل مساوات
Rational principle	عقل اصول
Rational psychology	عقلی نفیات
Rational selection	عقلی انتخاب
Rational self	نفس عقل
Rational thinking	استدلالی فکر
Rational utilitarianism	عقلی افواریت
Rationalism	عقلیت
Rationalism, ethical	اخلاقیات عقلیت
Rationalistic intuitionism	عقل رجدا نیت
Rationalization	نکریل۔ تاریل حیدر
Raw score	کجا شمار
Raynauds' syndrome	پیناڈ مجموعہ علامات

Reaction	رد عمل
Reaction, affective	تاثیری رد عمل
Reaction, anticipatory	پیش بینی رد عمل
Reaction, Autokinetic	خود حرکی رد عمل
Reaction, circular	دوری رد عمل
Reaction, complex	مرکب رد عمل
Reaction, compound	مرکب رد عمل
Reaction, emotional	جذباتی رد عمل
Reaction, muscular	عنصی رد عمل
Reaction, negative supporting	منفی تائیدی رد عمل
Reaction, positive supporting	مثبت تائیدی رد عمل
Reaction, selective	اختیاری رد عمل
Reaction, sensitivity	حسیتی جوابی رد عمل
Reaction, sensory	حسی ردعمل
Reaction, shifting	متغرون ردعمل
Reaction, supporting	تائیدی رد عمل
Reaction, formation	تشکل ردعمل
Reaction time	وقت ردعمل
Reaction time apparatus	وقت پیمار و قدر ردعمل (پیما)
Reaction time, disjunctive	منفصل جوابی عمل وقت
Reaction time experiment	اختیار وقت ردعمل
Reaction type	رد عمل ٹائپ
Reaction type, mixed	حمله طرد عمل ٹائپ
Reaction type, motor	حرکی رد عمل ٹائپ
Reaction type, muscular	عنصی رد عمل ٹائپ
Reactive depression	رجعي افسوس
Reactive schizophrenia	رجعي انتشار نفس

Readable	قابل خواندن
Readability	قابل خواندنگی
Reader	ریڈر - قاری
Readiness	آمادگی
Readiness, law of	قانون آمادگی
Reading	مطالعہ - خواندنگی
Reading, assimilated	بضم شدہ مطالعہ
Reading, assimilative	اسسی مطالعہ
Reading, associational	ایتلانی مطالعہ
Reading, basal	اساسی مطالعہ
Reading, choral	جماعتی خوش خوانی
Reading, collateral	اماری مطالعہ
Reading, developmental	ترقباتی مطالعہ / توسعی مطالعہ
Reading, extensive	وسيع مطالعہ
Reading, finger (touch)	لمسی مطالعہ
Reading, free	اززاد مطالعہ
Reading, home	بھی مطالعہ / خانگی
Reading, intensive	عمیق مطالعہ
Reading, leisure	تفربی مطالعہ
Reading, mechanical	میکانیکی مطالعہ
Reading, multi-text	ستد درسی کتب مطالعہ
Reading, oral	بلند خوانی
Reading, oral interpretative	تغیر بلند خوانی
Reading, reference	حرالہ جاتی مطالعہ
Reading, reflective	غائر مطالعہ
Reading, remedial	اصلاحی مطالعہ
Reading, rhythm	لے سے یڑھنا

Reading, silent	خاموش مطالعه
Reading, single	واحد مطالعه
Reading, subvocal	زیر لب پڑھن
Reading, supplementary	زایرلسانی
Reading, word by word	لفظ به لفظ پڑھنا
Reading accelerator	آلر تیزر خوانی
Reading chart	پڑھانی چارت
Reading disability	خواندنگی معذوری
Reading game	پڑھانی چیل
Reading guidance	رسانه‌ای مطالعه
Reading level	سطح مطالعه
Reading rate	رفتار مطالعه
Reading readiness	آمادگی مطالعه
Reading record	پڑھانی ریکارڈ
Reading sequence	تسلیم مطالعه
Reading series, basal	امتحان سلسلہ راساسی مطالعه کا
Reading span	حیطه خواندنگی
Reading stage	منزل مطالعه
Readjustment	باز مطالیقت
Real	حقیقی
Realism	حقیقت
Realism, commonsense	فهم عام حقیقت
Realism, conceptual	تصویری حقیقت
Realism, critical	تفقیدی حقیقت
Realism, direct	بلوار سطح حقیقت
Realism, dualistic	ثنوی حقیقت
Realism, epistemological	علیاً حقیقت

Realism, materialistic	مادی تی حقیقت
Realism, moderate	متدل حقیقت
Realism, naive	غیر تنقیدی حقیقت
Realism, natural	فطري حقیقت
Realism, new	نو حقیقت
Realism, personal	شخصیتی حقیقت
Realism, physical	طبیعی حقیقت
Realism, platonic	افلاطونی حقیقت
Realism, pluralistic	کثرتی حقیقت
Realism, pragmatic	علیقی حقیقت
Realism, representative	شبیهی حقیقت
Realism, transcendental	ماوراءی حقیقت
Realistic value theory	حقیقی نظریہ مدر
Reality	حقیقت
Reality, absolute	حقیقت مطلق
Reality, super-empirical	فوق تجربی حقیقت
Reality, supra-subjective	فوق موضوعی حقیقت
Reality, transubjective	دراے موضوعی حقیقت
Reality, ultimate	حقیقت اولی
Reality assumption	اخراض حقیقت
Reality principle	اصول حقیقت
Reality testing	تئز حقیقت
Realization	انگلٹامن، تکمیل۔ عمل پذیری، حسیں
Realization feeling	احساس تکمیل / احساس حسیں
Realms of ends	عالم غایات
Reals (Pl)	موجودرات حقیقتی
Reason	عقل۔ سبب

Reason, abstract	دلیل مجرد - عقل مجرد
Reason, concrete	شوس دیل
Reason, synoptic	اجمالی دلیل - عقل اجمالی
Reasoning	استدلال
Reasoning, analytic train of	تجزیاتی سلسه استدلال
Reasoning, aposteroiri	بعد تجربی استدلال
Reasoning, a priori	قبل تجربی استدلال
Reasoning, conclusive	نتیجه خواسته استدلال
Reasoning, dialectical	جدلیاتی استدلال
Reasoning, parity of	مطابقت استدلال
Reasoning, progressive train of	تدریجی سلسه استدلال
Reasoning, regressive train of	رجعی سلسه استدلال
Reasoning, synthetic train of	ترکیبی سلسه استدلال
Rebuttal	البطار
Recall	باز یافته (حافظه)
Recall, objective	معروضی باز یافته
Recall method	طریقه باز یافته
Recapitulation	اعاده - اعاده سین
Recency, law of	قانون ترتیب زمانی
Reception	قبولیت
Receptive apparatus	اخذی آلم
Receptivity	آخذیت
Receptor	آخذ
Receptor adaptation	آخذ توافق
Receptor-connect or cell	آخذ راصل خلیه
Receptor field	آخذ ساحت
Receptor set	آمدگی آخذ

Recess	وقته
Recessive gene	مراجعی جین
Recidivism	عادی مجرمیت
Reciprocal	باهم دگر
Reciprocal inhibition	باهمی اهیاربٹگی / رد طرف اهیاربٹگی
Reciprocal relation	باهمی تعلق - باهم دگر تعلق
Reciprocity	باهم دگری
Recitation	بازخوانی - قرات
Recognition	شناخت
Recompensation	باز تلافی
Record	ریکارڈ
Record, academic	تبلیغی ریکارڈ
Record, achievement	تحصیلی ریکارڈ
Record, attendance	حاضری رکارڈ
Record, cumulative	مجموعی ترقی رکارڈ
Record, efficiency	کارکردگی رکارڈ
Record, pupil	طلیبه رکارڈ
Record, reading	معطالہ رکارڈ
Record, truancy	درس سے گریزی رکارڈ
Record book	رکارڈ رجسٹر
Record form	رکارڈ فارم
Record sheet	رکارڈ شیٹ
Recovery time	وقته بازیابی
Recreation	تفزیع
Recreational therapy	تفزیعی طریقہ علاج
Rectitude	راس است بارزی - راستی
Recurrence, cyclic	دوری نکار

Recurrence, eternal	ابدی تکرار
Redemption	نجات
Red green blindness	سرخ و سبز کری
Redundancy (in communication)	حشو ابلاغ
Red tape	لال فیتہ
Reduced cue	تخییف اشارہ
Reducibility	تحفیض پذیری - تحول پذیری
Reductio ad absurdum	تحویل ہے بھل
Reductio ad impossible	تحویل ہے محال
Reduction	تحویل - تحقیف
Reductionism	تحویلیت
Reduction screen	از تکاڑ پر دہ
Re-education	تجدیدی تربیت
Reference	حوالہ
Reference, frame of	احاطہ حوالہ
Reference, transcendental	وراٹی حوالہ
Reference, trans-spatial	ورائے مکانی حوالہ
Reference, trans-temporal	ورائے زمانی حوالہ
Reference, transsubjective	ورائے مرضوی حوالہ
Referend	مشار
Referent	مشار اولیہ
Referential	اشاری
Referral	حوالی گی تحویل
Refined egoistic hedonism	لطیف اناقی لذتیت
Refined utilitarianism	لطیف افقاریت
Reflection	انعکاس - تفکر
Reflective morality	تفکری اخلاق

Reflex	عكس / اضطراریہ
Reflex, acoustic	صوتی اضطراریہ
Reflex, action	اضطراری فعل
Reflex, babinski	بینکی اضطراریہ
Reflex, chemical	کیمیائی اضطراریہ
Reflex, compensatory	تلائی اضطراریہ
Reflex, competitive	مسابقتی اضطراریہ
Reflex, conditioned	ساختہ اضطراریہ
Reflex, cooperative	تعاونی اضطراریہ
Reflex, cross	معارض اضطراریہ
Reflex, crossed extensor	روطڑہ باسط عضله اضطراریہ
Reflex, Darwinian	ڈراؤنی اضطراریہ
Reflex, extensor	باسط عضله اضطراریہ
Reflex, flexion	غم اضطراریہ
Reflex, grasping	گرفت اضطراریہ
Reflex, heteronomous	مختلف نوع اضطراریہ
Reflex, homonomous	یک نوع اضطراریہ
Reflex, initial	ابتدائی اضطراریہ
Reflex, intersegmental	میں قطعیت اضطراریہ
Reflex, maro	میرا اضطراریہ
Reflex, muscular	عضلی اضطراریہ
Reflex, myotatic	القاص عضله اضطراریہ
Reflex, nasal	انفی اضطراریہ
Reflex, patellar	عضله رانو اضطراریہ
Reflex, plantar	کفت پا اضطراریہ
Reflex, pupillary	مردم خشم اضطراریہ
Reflex, reinforced	تقویتی یا نفعی اضطراریہ

Reflex, righting	تعمیلی اضطراریہ
Reflex, salivary	لہاب دہنی اضطراریہ
Reflex, scapular	شانہ اضطراریہ
Reflex, scratch	خراش اضطراریہ
Reflex, segmental	جزوی اضطراریہ
Reflex, spinal	حرام مغزا اضطراریہ
Reflex, stance	توازن جسمی اضطراریہ
Reflex, startle	فجاعی اضطراریہ
Reflex, statokinetic	سکت حرکی اضطراریہ
Reflex, static	سکت اضطراریہ
Reflex, stretch	بسطی اضطراریہ
Reflex, suprasegmental	بالائے قطعات اضطراریہ
Reflex, suspension	تعطل اضطراریہ
Reflex, trot	دیکی چال اضطراریہ
Reflex, tympanic	پرده ٹوش اضطراریہ
Reflex, vital	اعضائے ریسمیہ اضطراریہ
Reflex-arc	اضطراریہ قوس
Reflex circle	دائرہ اضطراریہ
Reflex-latency	خفی اضطراریہ
Reflex sensitization	اضطراری تحس
Reflexology	اضطراریات
Reform	اصلاح
Reformatory theory of punishment	اصلائی نظریہ سزا
Refraction	انعطافات
Refraction error	خطای انعطافات
Refractory period	انعطافی دتفہ
Refractory 'period' absolute	مطلق انعطافی دتفہ

Refractory period, relative	اضافی انعطافی نام
Refutation	تُردید بر بناء منطق تئیش
Refutation by logical analogy	رجسٹر راجہ
Register, admission	رجسٹر مافری
Register, attendance	رجسٹر خارجہ
Register, withdrawal	رجسٹر ار۔ مسیل
Registrar	رجسٹری - اندر راج
Registration	رجسٹری فارم
Registration form	رجیعت - مراجعت
Regression	رجیعت مراجعت
Regression co-efficient	سادوات رجیعت
Regression equation	خط رجیعت
Regression line	وقفہ مراجعت
Regression time	سلسلہ مراجعت لامتناہی
Regressus ad infinitum	تائست
Regret	باز ترتیب
Regrouping	نظریہ توائر
Regularity theory	الضباط ضابط۔ تعدل
Regulation	التفہامی تعدلی
Regulative	التفہامی سانس
Regulative science	بکالی
Rehabilitation	باز جسمی
Reincarnation	سادی بنا
Reification	تقریت
Reinforcement	مختلف النوع تقریت
Reinforcement, heterogenous	ابتدائی مختلف النوع تقریت
Reinforcement, hetero- genous primary	اضافی مختلف النوع تقریت

Reinforcement, heterogenous secondary	ثانوي مختلف المزيع تقويت
Reinforcer, negative	منفي تقويت بخش
Reinforcer, positive	مشبت تقويت بخش
Reintegration	بازارتباط-استرداد
Rejectee	مسترد
Rejection	ترك-رد
Relata	مسربات
Relation	نسبة-تعلق
Relation, asymmetrical	نسبة لامتناكل
Relation, causal	على نسبة
Relation, dyadic	دو جهت نسبة
Relation, intransitive	غير ممکوس نسبة
Relation, Irreflexive	نسبة غيري
Relation, monadic	یک چیز نسبت
Relation, nonreflexive	غير ممکوس نسبة
Relation, nonsymmetrical	غير متناكل نسبة
Relation, non-transitive	غير انتقالی نسبة
Relation, one-one	یک یک نسبت
Relation, quaternary (totradic)	ربعي نسبة
Relation, Reflexive	ممکوس نسبة
Relation, sameness of	یکسانی نسبت
Relation, similarity of	ماهليت نسبت
Relation, symmetrical	متناكل نسبت
Relation, ternary (triadic)	ثلاثی نسبت
Relation, transitive	انتقالی نسبة
Relation, triadic	سه جهتی نسبت
Relations, theory of external	نظريه نسبت خارجي

Relations, theory of internal	نظریه تشبیت داخلی افانی اخلاقیات
Relative ethics	نظریه افانی تکریب
Relative frequency theory	شرح افانی تکرار
Relative variability, co-efficient of	مسلک اضافیت
Relativism	علیاً افانیت
Relativism, epistemological	افرادی اضافیت
Relativism, individualistic	معروضی اضافیت
Relativism, objective	نسیانی اضافیت
Relativism, psychological	اضافیت
Relativity	اصول اضافیت
Relativity, theory of	منسوب
Relatum	استرخا
Relaxation	بازآموزش
Relearning	طریقی بازآموزش
Relearning method	اخلاقی علاج
Release therapy	تعلق به موضوع متناسب
Relevance	متصل موضوع - متناسب
Relevant	متوجه موضوع - متناسب
Reliability	معتبری
Reliability parallel forms (equivalent forms reliability)	متوازی فارم معتبری
Relief	اهاد - راحت
Religion	ذہب
Religion, ceremonial	رسونامی ذہب
Religion, comparative	تفاہی ذہب

Religion, legal	تشریعی مذهب
Religion, metaphysics of	مالعداً للطبيعت مذهب
Religion, mystery	سری مذهب
Religion, national	قومی مذهب
Religion, natural	نطیری مذهب
Religion, philosophy of	فلسفه مذهب
Religion, preanimistic	قبل روحی مذهب
Religion, primitive	اوائلی مذهب
Religion, psychology of	نفیات مذهب
Religion, redemptive	مذهب کفارہ
Religion, savage	قبل تدریں مذهب
Religion, tribal	قبائلی مذهب
Religion, universal	آفانی مذهب
Religious a priori	مذهبی بیانات
Remedial instructions	اصلاحی درس
Remedial justice	اصلاحی انصاف
Remedial programme	اصلاحی پروگرام
Reminiscence	یاد
Reminiscence effect	یاد کا اثر
Remorse	پشیمانی
Remotivation	باز تحريك
Renaissance	نشاۃ ثانیہ
Renal	کلوئی
Renunciation	تیاگ - ترک
Reorientation	باز تعارف
Repentence	نمامت
Repetition compulsion	جبر تکرار

Replacement, rule of	اصل بدل
Report	رپورٹ
Report, annual	سالانہ رپورٹ
Report, attendance	حاضری رپورٹ
Report, class	کلاس رپورٹ
Report, conduct	چال ملن کی رپورٹ
Report, confidential	خفیہ رپورٹ
Report, consolidated	مجموعی رپورٹ
Report, dismissal	بر طرفی رپورٹ
Report, examination	امتحان رپورٹ
Report, health	صحت رپورٹ
Report, monthly	ماہانہ رپورٹ
Report, periodic	میعادی رپورٹ
Report, preliminary	استدایی رپورٹ
Report, progress	گرفتی رپورٹ
Report, school	اسکول رپورٹ
Report, transfer	ہادلہ رپورٹ
Report card	رپورٹ کارڈ
Representation	شبیہہ
Representationism	شبیہت
Representative fiction	نمائندہ افسانہ
Representative idea, theory of	نظریہ تصررات شبیہی
Representative objective	شبیہی معروضی
Repression	اعتباں
Reproductibility coefficient	بازآوری شرح معامل
Reproduction	تناسل۔ بازآوری
Reproduction method	طریقہ بازآوری

Reproductive system	تولیدی نظام
Repugnance	تنفس
Repulsion	گراہیت
Res cogitans	مفکره
Res cogitans extensa	مترات
Resemblance	مشابهت
Resemblance, accidental	اتفاقی مشابهت
Resemblance, essential	لازمی مشابهت
Resemblance, family	خاندانی مشابهت
Resemblance, secondary	ثانوی مشابهت
Resemblances, association of	ایتلات مشابهت
Resentment	آزردگی
Residual antecedents	مقدم باقی
Residual subsequent	موخر باقی
Residues, method of (Mill)	طریقه باقیات
Resignation	استغفار - تسلیم
Resilience	لچک
Resilient	لچکیلا - لچک دار
Resistance	مزاحمت
Resolution	قرارداد - عزم - عمل
Resomatization	باز تیر جسمی
Resonance	لگنک
Resonance box	لگنک ڈبیر
Resonance theory	لگنک نظریہ
Resonator	لگنک آلم
Resource person	مادر ہر خصوصی
Respiratory system	نظام تنفس
Response	جزائی عمل

Response, additional	مزید جوابی عمل
Response, all or none	مکمل یا مفقود جوابی عمل
Response, auditory	سمعی جوابی عمل
Response, conditioned	ساخته جوابی عمل
Response, consummatory	مختتم جوابی عمل
Response, direct	بلدا و اسطر جوابی عمل
Response, electro-dermal	برقی جلدی جوابی عمل
Response, emanated	صدری جوابی عمل
Response, evoked	استفزایی رو عمل
Response, galvanic skin	گلوانیک جلدی جوابی عمل
Response, glandular	اندروزی جوابی عمل
Response, hopping	مبستی جوابی عمل
Response, implicit	ضمنی جوابی عمل
Response, indirect	با لواسته جوابی عمل
Response, instinctive	جیستی جوابی عمل
Response, negative	منفی جوابی عمل
Response, pilomotor	مورے جسمی جوابی عمل
Response, subthreshold	دبلنری جوابی عمل
Response, overt	صرخه جوابی عمل
Response, potential	بالقوه جوابی عمل
Response, preparatory	تیاری جوابی عمل
Response, psycho-galvanic (P.G.R.)	نفیاپیک گلوانی جوابی عمل
Response, salivary	لایاب دهیان جوابی عمل
Response, selective	انتخابی جوابی عمل
Response, sympathetic	مشارکتی جوابی عمل
Response, varied	متغیر جوابی عمل
Response, volitional	ارادی جوابی عمل

Response adequacy	جوایی عمل کفايت
Response extinction	تعدیم جوایی عمل
Response-feed back	جوایی عمل بازرسانی
Response-precision	صراحت جوایی عمل
Response tolerance	حد برداشت جوایی عمل
Response, trial	آزمائشی جوایی عمل
Response variable	جوایی عمل کامنیزیرہ
Response word	جوایی لفظ
Responsibility	ذمہ داری
Responsive	جوایی / جواب آمارہ
Rest cure	علاج بذریعہ آرام
Restitution	رجوع اپنے مشیت (ردینیات)
Restlessness	بے چینی
Restoration	بازیابی / باز رہی
Rest pause	وقتہ آرام
Restraint	ضبط بندش
Restriction	پابندی - قید
Retaliation	جوایی حملہ
Retardation	پس انگلی
Retention	مک - قوت ماسک
Retentiveness	صلاحیت مک
Retest reliability	دوارہ آزمائش معتبری
Reticular activating system	شبکی تحریکی نظام
Reticular formation	شبکی ساخت
Reticular system, ascending	صعودی شبکی نظام
Reticular system, descending	نزولی شبکی نظام

Retina	رینا
Retinal rivalry	رینیانی رقابت
Retributive emotion	انتقامی جذبہ
Retributive justice	مکافاتی مدل
Retributive theory of punishment	مکافاتی نظریہ سزا
Retroaction	پس کاری
Retroaction facilitation	پس کاری سہولیت
Retrogression	پس رو
Retrospection	باز یینی
Retrospective	ماجع یا پاسی باز یینی (کا)
Retrospective process	باز یینی عمل
Revaluation	باز ارزازہ قدر
Revealed religion	الہامی مذہب
Revelation	وحی۔ الہام
Revelation, scriptural	صحائفی وحی
Revenge	انتقام
Reverberating circuit	بازگشت سرکٹ (دور)
Reverberation	بازگشت رآواز کی
Reverence	احترام
Reveric	عبد خیالی
Reversal formation	تقلیبی تشكیل
Reversal-learning	معلکوس آموزش
Reversal shift	الٹی باری
Reversed cues	معلکوس اشارے
Revivalism	احیائیت
Revolution	گوردوش۔ انقلاب
Rhythymia	کیفیت بے فکری

Rheumatoid arthritis	نقرس
Rickets	سوکھے کی بیماری
Right (Adj.)	صاحب۔ راست۔ درست
Right (Noun)	حق
Right, divine	خدا و ادھر خصوصی فرمان (ردائی کا)
Righteousness	راست بازی
Rights, inalienable	غیر منکر حق
Rigid	کڑپ۔ بے نوع
Rigourism	شدت پسندی
Ripple effect	لہری اثر
Risk technique	جو کرم تکنیک
Rite	رسام
Ritschlian	رشیلی
Ritualism	رسوم پرستی
Rivalry	رتابت
Rod	تمکٹ
Role compatibility	رول موزو نیت
Role conflict	رول کشاکش
Role-differentiation	رول تفرق
Role-disposition	رول میدان
Role-diffusion	رول انتشار
Role-incompatibility	رول ناموزو نیت
Role obsolescence	متروکی روول
Role-personality conflict	روول شخصیت کشاکش
Role playing	روول اختیار کرنا
Roll call	حاضری
Romanticistic	رومانتیک

Romberg sign	رومبرگ ملامت
Rotated group	گزدان گروپ
Rotation perception	اوراک گردش
Rotation schedule	باری شیدول
Roughness	کھردلائین
Round window	مدور دریک گوش
Rubella	سرخ چہ / روبلہا (درمن)
Rubin's figure	روبن شکل
Rule	قواعدہ
Rule-filtering	تفصیل قاعدہ
Rule information handling	قواعدہ استعمال معلومات
Rule, routing	نست قواعد
Ruling class	حکمران طبقہ
Rustication	عارضی اخراج

S

Sac	کیسہ
Saccule (Sacculus)	کیسک (کان کا)
Sacrament	تبرک اور مبارک رسم۔ مقدس عهد (مسیحی دینیات)
Sacrifice	قرابانی
Sacrifice, human	انسانی قربانی
Sacrifice, vicarious	نیابتی قربانی
Sacrum	استخوان مقد
Sadism	سادیت
Sadism, oral	رعنائی سادیت
Sadomasochistic pleasure	ایزاد ہی خود اڑیتی لذت
Saint	ولی۔ سنت
Sainthood	ولایت
Saintliness	تقدس
Salvation	نجات
Salvific	نجات دہی
Sample	نمونہ
Sample, random (see under random)	بے تابعہ نمونہ
Sample, representative	نمائشندہ نمونہ
Sampling	نمونہ بیندی

Sampling error	خطاۓ نمونہ بندی
Sampling quota	کوتا تجربی نمونہ
Sampling theory	تجربی نمونہ نظریہ
Sanctification	تقدسیں
Sanction, physical	طبعی وجہ و جریب
Sanctity	تقدسیں
Sanctum	وجہ و جریب - جواز
Sanctum, external	خارجی وجہ و جریب - جواز
Sanctum, internal	اندرونی وجہ و جریب - جواز
Sanctum, natural	فطری وجہ و جریب - جواز
Sanctum, political	سیاسی وجہ و جریب - جواز
Sanctum, religious	مذہبی وجہ و جریب - جواز
Sanctum, social	سمائی وجہ و جریب - جواز
Sanguine	دموی
Sarcolemma	غلالت عضلی خلیات
Satiation	تسلین - سیری
Satisfaction	آسوردمی
Satisfaction (in White head)	تسلیکیں (دھایاٹ ہیڈ)
Saturation	سیری / سعیدی
Saturation scale	پیارہ / سعیدی
Savant	فالم - فاضل
Saving method	کفایتی طریقہ
Scale	اسکیل - پیارہ
Scale, educational	تعلیمی پیارہ
Scale, equal unit	مساوی اکائی پیارہ
Scale, F	ایلت پیارہ
Scale, personal	شخصی پیارہ

Scale, preference	ترمیجی پیمانہ
Scale, preschool	قبل مدرسہ ترقی پیمانہ
Scale, social distance	سماجی فضل پیمانہ
Scale, Stanford Banet	اسٹنف فورڈ بینے پیمانہ
Scale, yerks-Bridges	یرکس برجنز پیمانہ
Scale, value	اتداری پیمانہ
Scaling	پیمانہ بندی
Scalogram method	طریقہ تعین وقت
Scatter	بکھراو
Scatter diagram	بکھراو نقشہ
Scenotest	تนาول آزمائش
Scepticism	سلک تشكیل۔ ارتباہیت۔ تشكیل
Scepticism, liberal	برل تشكیل
Schema	خواہ نفسی۔ خواہ ذہنی
Schematism	اطلاق مقولات (کانت)
Schism	انحراف
Schizo-affective type	امشاری تاثری ناپ
Schizoid	امشاری
Schizoid personality	امشاری شخصیت
Schizophrenia	امشار نفس
Schizophrenias pseudopsychopathic	کاذب امشار نفس مریضانہ
Schizophreniform	مشابہ امشار نفس
Schizophrenogenic	امشار نفس آفری
Schizothymic temperament	جزوی امشار نفسی مزاج
Scholastic	ایمنگا۔ (بخصوص مدرسی
Scholasticism	مدرسیت
School	مدرسہ۔ اسکول۔ مکتب رخیال وغیرہ)

School, academic	علمی مدرسه
School, activity	مشا غلی مدرسه
School, adult	مدرسہ بالغان
School, affiliated	ملحقہ مدرسه
School, agricultural	مراعتی مدرسه
School, aided	امدادی مدرسه
School, alternating shift	بازی مدرسه
School, basic	بنیادی مدرسه
School, boarding	اتامنی مدرسه
School, charity	خیراتی مدرسه
School, child centered	طفل مرکز مدرسه
School, circulating	کشتنی مدرسه
School, community	کمپونٹی مدرسه
School, community centred	کمپونٹی مرکز مدرسه
School, comprehensive	جامع نصاب مدرسه
School, continuation	سلسلی مدرسه
School, controlled	نری نگرانی مدرسه
School, conventional	رواییکی مدرسه
School, cypher	ساقفر مدرسه
School, dame	گھر بیو استانی مدرسه
School, denominational	فرقہ وار ان مدرسه
School, direct grant	راسست امدادی مدرسه
School, experimental	اخیارتی مدرسه
School, forest	مدرسہ جنگلات
School, limited	حدودہ مدرسه
School, four-year	چار سالہ مدرسه
School, incomplete secondary	نا مکمل ثانوی مدرسه

School, industrial	صنعتی مدرسه
School, laboratory	معلمی مدرسه
School, labour	لیبرسکول
School, monitorial	مانی گوریل اسکول
School, multilateral	کشیده ایمهات مدرسه
School, natural science	مدرسه علوم طبیعی
School, navy	بخاریہ مدرسه
School, nursery	نرسری اسکول
School, Omnibus secondary	بهمہ درسی ثانوی مدرسه
School, parochial	مقامی مدرسه
School, practising	مشقی مدرسه
School, peripatetic	مشائی مدرسه
School, primary	پر ائمہ اسکول - ابتدائی مدرسه
School, private venture	پر ایٹھویٹ مدرسه
School, public	پبلک مدرسه
School, reformatory	اصلاحی مدرسه
School, residential	آقامتی مدرسه
School, rural	روگنی مدرسه
School, secondary	ثانوی مدرسه
School, technical	تکنیکی مدرسه
School, unified	مجموعی تعلیم مدرسه
School, urban	شهری مدرسه
School, vocational	مدرسه پیشہ
School assembly	مدرسه اس晁یلی
School Camping	مدرسه خیمه زنی
School Census	مدرسه شماری
School Club	اسکول کلب

School Council	مجلس مدرسه
School day	نیوم مدرسه
School lag	پسمندگی مدرسه
School plant	اسکول پلانٹ
School record	اسکول رکارڈ
School report	اسکول رپورٹ
School session	تعلیمی سال (مدرسه)
School Superintendent	ہئیکم مدرسہ
Science, first	(مالیدا الطیبات) اساسی علم
Scientia Intuitiva	وجہان واقفیت، وجہان علم
Scientific ethics	سانشی اخلاقیات
Scientific management	سانشی نظم
Scientism	سانشیت
Scope	وسيع۔ دائرة بحث
Scopophilia	شہوانی لذت دید
Score	شمار۔ اسکور
Score, age	عمر شمار
Score, average discrepancy	اوسط اختلاف شمار
Score, Centile	فی صد درجہ
Score, Centile intelligence	فی صد درجہ ذہانت
Score, cut off	انقطاعی شمار
Score, cutting	انقطاعی شمار
Score, derived	ستخرج شمار
Score, equated	مساوی شمار
Score, grade	درجہ شمار
Score, lower quartile	ربع اول شمار
Score, median	وسطائیہ شمار

Score, percentile	نیصد شمار
Score, standard	معیاری شمار
Score, standard intelligence	معیاری شمار ذہانت
Score, transformed	مبدل شمار
Score quotient	شرح شمار
Scoring	عمل شمار
Scotomization	تخفیف بصری
Scotopia	رسبیر نظری
Scotopic luminosity	نور رفیعی
Scotopic vision	شبیری بھارت
Scout craft	فن اسکاؤنٹ
Scripture	صحیحہ (الہامی کتاب)
Scrupulousness	فرط احتیاط
Search behaviour	کیفیت تلاش، جستجوی تلاش
Sea shore test (of musical talent)	سمی شور رجائی رہ موسیقی کی صلاحیت کا
Sebaceous gland	اخراج روغن غدد
Secondary elaboration	ثانوی وضاحت
Secret controls	خفیہ کنٹرول
Secretion	اخراج رطوبت
Section	فرقت - نصل
Sector Therapy	اجزائی علاج
Secular	دینوں سے بے دین - سیکولر
Secularism	سیکولر ازم
Security	ضمانت - تحفظ
Security system	حفظی نظام
Sedative	مسکن
Segment	حصہ - قطعہ

Segmental arc	اقطائی توں
Segmental theory	حصی نظریہ - اقطائی نظریہ
Segregation	علاحدگی
Segregation Law	قانون علاحدگی
Selection method	انتخابی طریقہ
Selection ratio	نسبت انتخاب
Selective	انتخابی - انتخاب پسندی
Selective filtering	انتخابی تقطیر
Selective ignorance	انتخابی نادانی
Selective reception	انتخابی اخذ
Selective vigilance	انتخابی خبرداری
Self	ذات - نفس
Self, empirical	نفس تجربی - تجربی ذات
Self, ideal	مثالی نفس
Self abasement	تنزیل نفس
Self abnegation	نفس کشی
Self absorption	خود محبوس
Self accusation	خود ازایی
Self actualization	خود تحقق
Self aggrandizement	کبیر نفسی
Self-alienation	خود یگانگی / خود ناشناسی
Self annihilation	ذات کش
Self appraisal	جاگزہ ذات
Self assertion	ارعائے ذات
Self assertiveness	خود از عازی
Self centered	خود مرکز
Self competition	مقابلہ با خود

Self Confidence	خود اعتمادی
Self Conquest	تیرفس
Self Consciousness	خود احساسی - شعور ذات
Self Conscious	خود احساس - خود شعوری
Self Consistency	توافق بالذات
Self Contemplation	مراقبه نفس / ذات
Self Contradiction	تفاوت بالذات
Self Control	ضبط نفس
Self Criticism	خود تفکیدی - تنقید نفس
Self Culture	تمهییت نفس
Self deception	خود فریبی
Self delusion	زرب نفس
Self defeating	خود شکست
Self denial	ایشاره نفس
Self depreciation	تحمیل نفس
Self determination	خود اختیارت - خود راریت
Self determinism	خود تعیینت
Self devaluation	تحمیل قدر ذات
Self differentiation	خود تفرقی
Self display	خود نمایی
Self dynamism	خود نیازی
Self education	خود تعلیمی
Self evidence	پدیدهیت
Self evident principle	پدیدهی اصول
Self expression	اظهار ذات
Self creative	تحمیلی ذات
Self gratification	تسلیم ذات

Selfhood	خودی- ذات
Self identity	عینیت ذات
Self imposed	خود نهادگی
Self improvement	خود اصلاحی- اصلاح نفس
Self-indulgence	نفس پرستی
Self-instruction	خود آموزی
Self interest	مفاسد ذات
Self limitation	تحمید ذات
Self love	حب ذات
Self negation	نفی ذات
Self objectification	لعراض ذات
Self observation	مشاهده ذات
Self preference	خود ترجیحی
Self preservation	تحفظ نفس
Self punishment mechanism	خود تعزیری میکانیسم
Self rating	خود پیشانی
Self realization	عرفان ذات
Self realizationism	نظریه عرفان ذات
Self recrimination	خود ارزایی
Self refuting	خود تردیدی
Self regard	لحاظ ذات
Self regard, sentiment of	جزبه لحاظ ذات
Self regarding impulses	خود لحاظ حرکات
Self rejection	رد ذات
Self reliance	خود اعتمادی
Self reproach	خود ملامتی
Self repudiation	خود انکاری

Self respect	خودداری - عزت نفس
Self restraint	ضبط نفس
Self sacrifice	ایشارہ - قربانی
Self scorer	خود شمارگشندہ
Self sentiment	جذبہ لحاظ ذات
Self serving behaviour	خود غرضانہ کردار
Self-sufficient	خود مکتفی
Self theory	نظریہ ذات
Self transcendence	خود درانی
Selfishness	خود غرضی
Selk'man's typology	سلک مین ٹاپی نظریہ
Semantic analysis	معنیاتی تجزیہ
Semantic reductionism	معنیاتی تحریلیت
Semantics	معنیات
Semantic test of intelligence	معنیاتی آزمائش ذراست
Semasiology	علم معنیات
Semblance	خفیت مشابہت
Semi Circular Canal	نیم دائری تالی
Semi indirect lighting	نیم منقی نور
Semi interquartile range	نیم بین ربعی حیط
Seminar	سینیار
Semistic	اشاریات
Senate	سینیٹ
Senescence	انحطاط پیری
Senile dimensia	فطور پیری
Senile dimensia delirious	نہ ریانی فطور پیری
Senile dimensia depressed	انسدادہ فطور پیری

Senile deterioration	اخطاط پرانہ سالی
Senile psychosis	جنون پری
Senilism	بوجھا پا
Senium	پری
Sensa, selective theory of	انتخابی نظریہ احساسات
Sensation	تحیس
Sensation, contact	لمس
Sensation; girdle	دہنی تھیس کمر بندی
Sensation, maximal	منتها تھیس
Sensation, motor	حرکی تھیس
Sensation, muscular	عضلانی تھیس
Sensation, Olfactory	شمی تھیس
Sensation, referred	ستقل تھیس
Sensation, secondary	ثانوی تھیس
Sensation, tendon	وتری تھیس
Sensation, vascular	عروقی تھیس
Sensation, vibration	ارتعاشی تھیس
Sensation, visual	بصری تھیس
Sensation, wetness	احساس نمی تھیس
Sensation, whirl	تحیس گردش
Sensationalism	تحییت
Sense	حس - حاسہ
Sense, auditory	سمعی حس
Sense, chemical	کیمیا وی حس
Sense, cutaneous	جلدی حس
Sense, equilibratory	حس توازن
Sense, external	

Sense, internal	داخلی حس
Sense, organic	عضوی حس / احشائی حس
Sense, pain	حس درد
Sense, static	حس توازن
Sense, Cells	خلیات حس
Sense data, family of	معلمیات حس خاندان
Sense data, nuclear	نیوکلیئن معلمیات حس
Sense data statement	بیانیه معلمیات حس
Sense equipment	آلات حس
Sense field	ساحت حس
Sense gratification	تسلیک حس
Sense impression	حس ارتسام
Sense manifold	حسی متزغعات
Sense of duty	فرض شناسی
Sense of guilt	احساس جرم
Sense organ	عضو حس
Sense qualia	حسی کوالیا
Sense quality	حسی کیفیت
Sense ratio method	نسبت حواس طریقه
Sensible	محسوس
Sensible species	ذی حس نوع
Sensibilia(pl. of sensible)	محسوسات
Sensibility	احساس پذیری / احساسیت
Sensibility, subcutaneous	تحت جلدی احساس پذیری
Sensibles, common	مشترک محسوسات - احساس جمکنی
Sensibles, special (proper)	مخصوص محسوسات
Sensing	حس

Sensitive	حساسی
Sensitive zone	حساس منطقہ
Sensitivity	احساس پذیری - تاثر پذیری
Sensitivity training	تربیت حسیت
Sensitization	حساس بنا
Sensorium	مقام حس
Sensory	حسی
Sensory acuity	باریک حس
Sensory area	حسی رقبہ
Sensory deprivation	تقلیل حسیت
Sensory discrimination	حسی امتیاز
Sensory motor activity	حسی حرکی نفس
Sensory motor arc	حسی حرکی قوس
Sensory organization	حسی نظام
Sensory process	حسی عمل
Sensual	نفسانی - شہوونی
Sensualism	حسی انداخت
Sensum	حسیہ
Sensum theory	نظریہ حسیت
Sensuous	حسی نفس / نفس مارہ
Sensuous self	پنیاری جملہ
Sentence, basic	اعلانیہ جملہ
Sentence, declarative	حیثیت حس
Sentience	جز بہ مستقل
Sentiment	جنربات پرستی
Sentimentalism	جنرباتیت
Sentimentality	جنرباتیت

Separation	علاحدگی
Separation anxiety	تشویش علاحدگی
Septal area	رتبه ناصل (عضویات)
Septal region	علاقوه فاصل
Sequela	مرلپانہ اثرات عالت
Sequence	سلسلہ / توالی
Sequence, integrated	منظم سلسلہ
Serenity	طمأنیت
Serial behaviour	باترتیب افعال
Serial discrimeter	سلسلہ وار امتیاز پیمانہ
Serial position effect	ترتیبی درس اثر
Sermon	وعظ
Servo-mechanism	معارن مکانیہ
Session	اجلاس
Set	حالت آمادگی - سیٹ (مجموعہ وغیرہ)
Sex	جنس
Sex antagonism	جنیوی مذاہر
Sex characteristics, secondary	ثانوی جنس خصوصیات
Sex difference	جنیوی فرق
Sex energy	جنیوی کوانسی
Sex feeling	جنیوی احساس
Sex glands	جنیوی غدروں
Sex gratification	جنیوی تسلی
Sex latency	خوابیدگی جنس
Sex trauma	جنیوی صدمہ / ترورما
Sexuality	جنیویت
Shading score	تدریجی رنگ شمار (دوسرا نام)

Shading response	تدریجی رنگ جوابی عمل (در شاخ)
Shaking palsy	رعشان فالج
Sharpening, memory	سرع حافظه
Sheet, personal data	فرد تفصیلات شخصی
Shell shock	صدمة جنگ
Sheltered workshop	امدادی در کشان پ
Shift	شفت - باری
Shock	دهکا
Shock therapy	علاج با صدمہ
Shop committee	صنعتی تربیت کمیٹی
Shop committee steward	نگران صنعتی تربیت کمیٹی
Shortsightedness	کوتاه نظری
Shut in personality	شخصی شخونتیست
Shyness	شر میلان پ
Sibling resemblance	بھائی دلہ
Signal experiment	سگنل اختیار
Significant singular name	محض اسم واحد
Similarity, essential	بنیادی ماثلت
Similarity, imperfect	غیر کامل ماثلت
Similarity, law of	قانون ماثلت
Similarity, secondary	ثانوی ماثلت
Simo chart	سامو چارت
Simo skill chart	سامو مہارت چارت
Simple chance distribution	عام اتفاقی تفریق
Simplicity, principle of	اصول سارگی
Simplification	تبسيل
Simulacrum	شبیه

Simulacrum	مُتَابِهٌ
Simulated test	نموده جانع
Simulation	نقل - بنادی عل
Simulator	نقلى آلم
Simultaneous contrast	ہم وقت مقابل
Sin	گناہ
Single group	مفرد گروپ - واحد گروپ
Single stimuli method	طریقہ مفرد نہیجات
Singularism	نظریہ وحدت
Sinistrality	لیساریت
Sinistral writing	لیساری تحریر
Sittlichkeit	شاستھی
Situation, existential	وجردی موقعت
Situation, extraspектив	تشکیکی موقعت
Situation, postulational	مفرد منی موقعت
Situational test	موقعی جانع
Sizar	وظیفہ یا ب خدمت
Sizarship	تعلیمی وظیفہ خدمت
Skepticism, ethical	اخلاقی تشکیک
Skepticism, methodological	منہاجی تشکیک
Skewness	خییدگی (خط تحریر)
Skill	ہمارت
Skill communication	ہمارت ترکیل
Skill factors	عوامل ہمارت
Skill index	ہمارت اشاریہ
Slave morality	فلامانہ اخلاق
Sleeping sickness	مرض النوم

Sleep therapy	فرمی طریقہ علاج
Sling psychrometer	سلنگ بروڈسپیا
Slow down strike	سست کام ہرٹال
Slow learner	سست آموز
Smell	بو
Smell compensation	تفسیح بو
Smoothness	سہواری
Snell Chart	سنل چارٹ
Snow blindness	برفت کوری
Sociability	محبত پسندی
Social adaptation	ساماجی مطابقت
Social adjustment	ساماجی مطابقت
Social approbative theory	نظریہ سماجی پسندیدگی
Social class	ساماجی طبقہ
Social coherence	ساماجی مر بڑیت
Social competence	ساماجی اہلیت
Social conduct	ساماجی کردار
Social contract	معابرہ عمرانی
Social control	ساماجی کنٹرول
Social curiosity	ساماجی تجسس
Social distance	ساماجی فصل
Social distance Scaling method	ساماجی تفاوت پیمانی طریقہ
Social dynamism	ساماجی حرکیات
Social equilibrium	ساماجی توازن
Social facilitation	ساماجی تسیل
Social factor	ساماجی عامل
Social feed back	ساماجی بازرسان

Social force	سماجی قوت
Social gospel	سماجی مسلہ
Social group	سماجی گروپ
Social growth	سماجی نشوونا
Social heritage	سماجی ورثہ
Social imperative	سماجی املازم
Social isolate	سماج بیزار
Social lag	سماجی تاخر
Social medicine	سماجی نظام علاج
Social misfit	سماج بے جوڑ
Social mobility	سماجی حرکت پذیری
Social mobility, horizontal	افقی سماجی حرکت پذیری
Social mobility, vertical	عموری سماجی حرکت پذیری
Social pathology	سماجی مرضیات
Social promotion	سماجی ترقی
Social responsibility	سماجی ذمہ داری
Social role	سماجی روول
Social Science	سماجی علم۔ سماجی سائنس
Social selection	سماجی انتخاب
Social self	سماجی نفس
Social service	سماجی خدمت
Social situation	سماجی صورت حال
Social status	سماجی حیثیت
Social stereotype	پیش سماجی پذیری - سماجی سبک
Social suppression	سماجی اجبار
Social technique	سماجی ٹکنیک
Social transmission	سماجی توریث

Social will	سماجی ارادہ
Social work	سماجی کام
Socialization	سماجیانا
Socialization, anticipatory	پیش میں سماجیانا۔ سماجیت پذیری
Socialized speech	سماجیت پذیر تکلم
Socialism	اشتراکرکت
Socio chart	سماجی چارٹ
Socio drama	سماجی ڈراما
Socio-economic forces	سماجی معاشی قوتوں
Sociogram	نقشہ سماجیت / رسرو شرک گرام
Sociograph	سوشوگراف
Sociological relativism	سماجیاتی اضافیت
Sociology	سماجیات
Sociometric disposition	سماجیت پہا افوارہ میلان
Sociometry	سماجیت پہیائی
Socionomic forces	سماجی طبیعی توتوں
Socionomics	طبیعی سماجیات
Socions	سماجی جمیہ
Sociopathic personality	سماج بیمار شخصیت
Sociotherapy	سماجی طریقیہ علاج
Solipsism	نظریہ عینیت
Solipsism, physiological	عضویاتی عینیت
Solution	حل - محلول
Soma	جسم
Somaplasma	جسم دمایہ
Somatic	جسمی
somatic reality	جسمی حقیقت

somatization	جسد پزیری
Somatogenic	جسدنما
Somatology	جسديات
Somatopsychic delusion	جسماني نفسی فریب
Somatopsychosis	جسماني جنون
Somatotonia	چست قوی اندام
Soma types	جسماني ملاب
Somethesis	جسماني حیثیت
Somnaloguy	خواب کلامي
Somnambulism	خواب خرامي
Somnambulistic state	خواب خرامي كيفيت
Sonometer	آراز پیا
Sophia	مکتم
Sophiology (sophinienism)	نظام مکتم الميه
Sophism	سرفسطائيت
Sophistic	سرفسطائي
Sophistical refutation	سرفسطائي رود
Sophistry	گراهه کون استرال
Sorites	تیاس مسلسل
Sorrow	غم
Soteriology	علم النجات
Soul substance theory	نظریه جوهریت روح
Sound	آواز
Sound proof	آواز روک
Sound wave	آواز هم
Source	ماخذ- منبع
Source trait	بنیادی و صفت

Sour grapes mechanism	حیله نایانت
Space	مکان
Space, conceptual	تصویری مکان
Space, perceptual	اراکی مکان
Space error	خطای مکان
Space orientation	مکان شناسی
Space perception	اراک مکان
Space time	مکان زمان
Space time continuum	مکان زمان تسلسل
Space time manifold	مکان زمان عالم متزغات
Spaced repetition	بادقتنه اعاده
Span	حیله
Spasm	تشنج
Spasmodic torticollis	مگردن تشنج
Spasticity	عضلاتی تشنج
Spatial threshold	اقل مکان
Spearman Brown formula	اسپیرمن براؤن فارمولہ
Specialization	تخصص
Specialized	متخصص
Special promotion	خصوصی ترقی
Species	ازواع - نوع
Specific	خصوصی - نوعی
Specific energy of nerves	خصوصی عصبی توانان
Specification	تصریح - تفصیل
Specificity	تفصیل (فلسفہ) - صراحت
Specious present	حال عسوس
spectral sensitivity curve	طیفی حسیتی خط

Spectrometer	طیف پیما
Spectrum	طیف
Speculation	تکنکر- خیال آرائی
Speculative bias	تکنکری جانب داری
Speech defect	نقص گویایی
Speech muscle	عضله گویایی
Speech sound	کلامیه (آواز)
Speed test	رفتار جاوند
Speeding up	ترغیب کار کردگی
Spelling	ہجھا۔ ہجھے
Sperm	رجلی منی
Sphincter	میڑزی عضله
Sphygmograph	نبض نگار
Sphygmometer	نبض پیما
Spike potential	عنقی بر ق رو بالمققرہ
Spinal animal	ریڑھ دار حیوان
Spinal ganglion	ریڑھ مگرہ
Spinal nerve	ریڑھ عصب
Spiral omnibus test	روواڑی ہمہ قسمی آزمائش
Spiral reflex	دوری اضطراریہ
Spirit	روح - نفس
Spirit, absolute	روح مطلق
Spirit, Apollonian	اپاولی روح (تعمیری روح)
Spirit, Dionysian	دایونسی روح (تخریبی روح)
Spirit, elemental	نفس عنصری
Spirit, philosophic	فلسفیانہ انداز نظر
Spirit, scientific	سائنسی، انداز فکر

Spiritism	روحیت
Spiritual	روحانی
Spiritual sin	روحانی کنہاں
spiritual unrest	روحانی اضطراب
Spiritualism	روحانیت
Spirometer	سائنس پیما
Split growth	مکتسر بالیدگی
Split half reliability	تفصیلی معتبری
Spontaneity	یے ساٹھی
Spontaneous	یے ساختہ
Spontaneous recovery	از خود بحالی
Spontaneous remission	از خود اناتہ
Spring resistance	مزاحمت استحکام حالت
Spurt	جست
Square of opposition	مرربع تقابلی
Stablimeter	استحکام پیما
Staff	اسٹاف - عملہ
Staff, teaching	ٹینگ اشاف - علم مدرسین
Staff training	اشاف ٹریننگ - تربیت علا
Stammering	کندت
Standard	معیاری / معیار - عیار
Standard deviation	معیاری انحراف
Standard error of estimate	معیار خطاۓ تخمین
Standrad (standing operating procedure) (SOP)	مقررہ عملیاتی طریقہ
Stanford motor skill	اسٹنفورد ڈھرکی مہارت
Standard task	معیاری کار

Standardization	معیاربندی
Standardized	معیاربند
Stanine scale	نر عصی ناپ
Stanine score	نر عصی شمار
Starfish analogy	حیرت خیز درود عمل) خاک
Startle (reaction) pattern	دفعه سراسیگ (رد عمل)
Startle response	حراسیه جوانی عمل
State	ادریاست - ۲ - حالت
State, transitive	عصری حالت
State of Nature	فطری حالت
Statement	بیان
Statement, elliptical	بینتوی بیان
Statement, non-elliptical	غیر بینتوی بیان
Statement, truth functional compound	صدقاقت و ظانقی بیان
Static	ساکن
Static atacia	سکونی اختلال مضلات حرکی
Static contraction	سکونی سکوون
Static response	سکونی جوانی عمل
Statics	سکونیات
Statics, social	سامانی سکونیات
Station	مقام
Statistics	شماریات
Statistical process	شماریاتی عمل
Statistical psychology	شماریاتی نفسیات
Statistical inference	شماریاتی استنباط
Statistical variable	شماریاتی متغیره
Statistical method	شماریاتی طریقه

Statisticism	شمایرات
Statistician	شمایرات دان - ماہر شمایرات
Status anxiety	نشوشی رتبه
Status epilepticus	متواتر مرگی دوره / متواتر مرگی
Status equilibration hypothesis	توازن رتبه مفروضه
Status symbol	علامت رتبه
Status validity	صحیت رتبه
Staying quality	کیفیت قائم
Steadiness tester	استقامت پیا
Stereochron cyclegraph	اسٹریو کرونو سائل گراف
Stereocyclegraph	اسٹریو سائل گراف
Stereogram	اسٹریو گرام
Stereophonic effect	دوسروی اثر
Stereoscope	آئو چشم بین
Stereotype	مسبرک
Stereotypes	مسبرکات
Stereotyped (behaviour)	مسبرک کردار
Steroids	استرودائٹ
Stick figure	لکھنی شکل
Stigma	کلک - داع
Stimulation-induced maturation	پختگی یہ تیج
Stimulation substitution theory	تبادل تیج نظریہ
Stimulation variable(S variable)	تیج متغیرہ
Stimulus	تیج
Stimulus, adequate	موزون تیج
Stimulus, conditional	ساخته تیج

Stimulus, inadequate	ناموزوں پریج
Stimulus, localized	مقایی پریج
Stimulus, standard	سیاری پریج
Stimulus, error	خطائے نسبت پریج
Stimulus response mechanism	پریج جواب میکانیہ
Stimulus response view	پریج جواب نظریہ
Stimulus word	پریج لفظ
Stocking anesthesia	بے حسی پا
Stoicism	رواقیت
Stop item	مذاخر۔ مد خاتم
Strain	بار
Strategy	حکمت عملی۔ محاذی حکمت
Stress	درباد
Stress tolerance	دیاڈ برداشت
Strike, jurisdictional	حد بند ہڑتال
Strike, sit down	رھنا
Strike, sympathy	حمدہ روانہ ہڑتال
Strike proneness	ہڑتال میلان
Stroboscope	رنگتار گرفت پیلا
Stroboscopic motion	رنگتار گرفت حرکت
Strong vocational blank	اسٹرائک پیشہ فاکر
Structuralism	ہیئتیت
Structural psychosis	ساختی جنون
Structure	ہیئت
Struggle for existence	ہیئت/ ساخت
Student	طالب علم۔ متعلم
Student, free	فیس معااف طالب علم

Student advisor	مشیر طلبہ - مشیر طلبیا
Student aid	امداد طلبہ - امداد طلبیا
Student exchange	تبادلہ طلبیا
Student court	صرامت طلبیا
Study	مطالعہ
Study, analytical	تجزیاتی مطالعہ
Study, cross sectional	بین طبقاتی مطالعہ
Study, directed	زردیافت مطالعہ
Study, follow up	توقیقی مطالعہ
Study, genetic	نشانی مطالعہ
Study, guidance	مطالعہ برائے رہنمائی
Study, longitudinal	عموری مطالعہ
Study skill	مهارت مطالعہ
Study unit	مطالعہ کافی
Stuff, neutral	پری تخصیص مواد
Stupidity, affective	تاثیری حاققت
Stupor	غش - حالت غش
Stuttering	ستلابیٹ
Style of life	طرز زندگی - اسلوب زندگی
Subaltern, converse	ذیلی مقابل مغلوب
Subalternate	تحت مقابل
Subalternation	تحت مقابل
Subaltern genera	ماتحت جنینیں
Subaltern opposition	بحتی مقابل
Subaltern species	ماتحت انواع
Subception	تحت اوراک
Sub-class	ذیلی صفت - ذیلی طبقہ

Sub-classification	ذلی صفت بندی
Sub-conscious	تحت شعور
Sub-conscious mind	تحت شعور فہم
Sub-conscious morality	تحت شعور اخلاق
Sub-contrariety	تحت تضادیت
Sub-contrary	تحت متضاد
Sub-cortical ganglia	مرکزی عصبی گنجما
Sub-culture	ذلی تہذیب
Subcutaneous	نریر جلدی
Subcutaneous tissue	نریر طبی ریشہ
Sub-dural	نریر غشاء ماغ
Sub group	ذلی گروپ
Sub group culture	ذلی گروپ پلچر
Sub human	تحت انسانی
Sub implicant	بلزدم ذلی
Sub-implication	بلزدم ذلی
Subitizing	نیم مراد
Subject (Grammar)	فاعل
Subject (Epist)	مرصون
Subject (Edu.)	مفہوم
Subject, compulsory	لازی مفہوم
Subject, elective	اختیاری مفہوم
Subject, optional	اختیاری مفہوم
Subjective	مورضہ عی۔ داخلی
Subjective equality, point of (P.F.)	مورضہ عی مساوات نقطہ
Subjective ethics	مورضہ عی اخلاقیات
Subjective idea	مورضہ عی تصورت

Subjective naturalism	صرفیعی فطرتیت
Subjective psychology	داخلی نفسیات
Subjectivism	موضوعیت - راخطیت
Subjectivism, epistemological	علیاًتی موضوعیت
Subjectivism, theistic	الہیاتی موضوعیت
Subject magazine	صفحون رسالہ
Sublapsarianism (infrālabarianism)	نظریہ نجات بعد سیوط
Sublimation	ارتفاع
Sublime	ارفع
Sub-liminal	تحت اقل
Subman	تحت بشر
Submission	اماعت
Subnormal	تحت طبیعی
Subsistence	لبقا
Subsistent	باتقیہ
Subsistent, cogitative	فکری باتقیہ
Subsistent, non-cogitative	غیر فکری باتقیہ
Substantive problem	مسئلہ ثابتہ
Substitute	بدل
Substitution	تبديل
Substitutional instance	بدل و توعہ
Subtractive colour mixture	تفریقی رنگ آمیزہ
Subtractive Primaries (colours)	تفریقی ابتدائی رنگ
Substratum	اساسی جوہر
Subsumption	تحت میں پوتا، تحت میں لانا
Substitution test	تبديلی چال

Sub test	باعنی کا جزو
Subtraction method	طریقہ تفریق
Succession	توالی
Successive age level	متوالی سطح عمر
Successive approximation method	متوالی اقتراپ طریقہ (مسئلہ اتزام)
Successive contrast	متوالی خلافت
Suckling	چور سننا۔ شیر خوار بچہ
Sufism	تصوف
Suggestibility	ایکاپنڈیری
Suggestible	ایکاپنڈیریہ
Suggestion	ایکا
Suggestion, negative	منفی ایکا
Suggestion, post hypnotic	بعد تنویم ایکا
Suggestion system	نظام ایکا
Suggestive question	ایکائی سوالات
Sui generis	بغضہ
Sulcus	حرفت۔ درز دماغ
Sulcus, central	مرکزی درز دماغ
Summation	تجمیع
Summation, psychic	نفسی تجمیع
Summation, spatial	مکانی تجمیع
Summation, temporal	زمانی تجمیع
Summer camp	گرمائی کمپ
Sumum bonum	خیرا علی
Superaltern	متبدل اولی
Super ego	خوب نہ انا
Super implicant	ملزوم اولا

Super implication	لزوم اولیٰ
Super-personalism	مسلسل درائے شخصیت
Super rationalism	درائے عقلیت
Super subjective theory	درائے موضوعی نظریہ
Supervision, corrective type	اصلائی تنگرانی
Supervision, employee centred	کارکن مرکز تنگرانی
Supervision, job centred	کام مرکز تنگرانی
Supportive behaviour	تائیدی کردار
Supra lapsarianism	نظریہ بخات قبل ہبوط
Supramundane	دراستے دنیوی
Supravention quality	عارض کیفیت
Surrealism	دراستے حقیقت سریزیم
Sweat gland	عرقی غدر در
Sweive theory	نظریہ انحراف
Syllogism, categorical	غیر مشروط قیاس
Syllogism, decuritate	قیاس اضافریہ
Syllogism, defective	قیاس ناقص
Syllogism, didactic	ڈاعظانہ قیاس
Syllogism, disjunctive	قصانی قیاس
Syllogism, mixed alternative	خلوط متبادل قیاس
Syllogism, mixed hypothetical	خلوط مشروط قیاس
Syllogism, pure hypothetical	خلص مشروط قیاس
Symbotic child	سادر بستہ بچہ
Symbol, propositional	تفیائق علامت
Symbol, three bar	سرخی علامت
Symbolic goals	علامتی مقصور
Sympathetic unglion	احساس انگیز عصی گھما

Sympatheticotonia	احساس مغاربی
Sympathin	سمپتین
Sympathin E	سمپتین "ای"
Sympathin I	سمپتین "آئی"
Sympathism	هم احساسیت
Symptomatic epilepsy	علامتی مرگی
Syranon	مشیات شفاغانه
Synapse	(اتصالیه رعصبی)
Synaptic delay	(اتصالیه تاخیر رعصبی)
Synaptic transmission, polarized	مقطوب اتصالیه ترسیم
Syncopal attack	تعطل تنفس روره
Syncope	تعطل تنفس
Synderesis	شرار باطن
Syndrome	مجموع علامات
Synergistic muscle	هم کار عضله
Synesthesia	هم و قوی احساس / هم پیکری احساس
Synoptic principle	امحای اصول
Synthetic elemental times	ترکیبی منظر زمان
Syphilophobia	خوف آنک
System, digestive	نظام ہاضمه
System, endocrine	انڈودکرینی نظام
System, excretory	نظام اخراج
System, forced distribution	جری تقسیم نظام
System, lymphatic	ملفی نظام
System, man-machine	آدمی مشین نظام
System, motor	حرکی نظام
System, muscular	عضلانی نظام

System, the Regents	ریجیست نظم
System, employee comparison	ملازمین موازنہ نظام
System design	سسٹم ڈائیزائن
System man	ماہر نظم
System problems	سائل نظم
Szondi test	زونڈی ٹیسٹ / جانچ

T

Tabes dorsalis	پشت آتشک
Table	گوشه را ره
Taboo	امتناع۔ مانع کرنا
Tabula rasa	لوح سادہ
Tachistoscope	ٹیچیستو گلوب
Tachy ,cardia	ٹیچیکار ڈیا۔ ول کی دھڑکن
Tactual image	لمسی تھال
Taking the dilemma by the horns	از لئے زوج ہتھیں
Talent	صلاحیت، لیاقت
Talented	با صلاحیت، لائق
Talion principle	اصول تصادم
Tambour	تنبورہ
Tantrum	چکلا ہست
Taoism	تاویست، رلادیزے کا فلسفہ
Tapping Board	ٹینپنگ بورڈ
Tarantism	رعنی مانیا
Task and bonus rate	کام اور بروپسی شرح
Task completion	تمیل کار
Task gui ^r age	رسہانی کار

Task motivation	تحمیک کار
Task oriented reaction	کار رخ ردعمل
Task specification	تخصیص کار
Taste	زوق - مذاق - ذائقہ
Taste Bud	مسام ذائقہ - خلیہ ذائقہ
Taste Receptor	ذائقہ آخذ
Tautology	سکرا معنی / مغالطہ معنی
Taxinomy (Taxonomy)	ٹیکسونومنی
Taxis	جنین جواب عمل
Taylorism (Scientific management)	نظریہ شرید
Taylorism	ٹیلریت
Taysachs disease	تیشاچ مریض (اطفال کا)
Teacher	استار معلم - مدرس
Teacher, assistant	نائب مدرس
Teacher, consultant service	صلاح کار استار
Teacher, core	مرکزی نفاب استار
Teacher, home room	ہوم روڈم استار
Teacher, reserved	زاند استار
Teacher, retired	سبکدوش مدرس
Teacher, supervising	نگران معلم - نگران مدرس
Teacher, visiting	ہمان استار
Teacher centered	معلم مرکز - مدرس مرکز
Teacher placement	امداد لازم استار
Teachers, association	اجنبیں اساتذہ
Teachers, Council	مجلس اساتذہ
Teacher curriculum	نفاب اساتذہ
Teachers, Federation	اجنبیں اساتذہ اساتذوں کی فیڈریشن -

Teachers' guide	رہنمائی اساتذہ
Teachers, institute	ادارہ اساتذہ
Teachers' Training Course	نصاب تربیت اساتذہ
Teachers' manual	دستورالعمل اساتذہ
Teachers' seminary	مدرسہ اساتذہ
Teacher tenure	حدت ملازمت اساتذہ
Teaching, demonstration	نمونہ تدریس
Teaching, directed	ہدایتی تدریس
Teaching, direct method	ڈائرکٹ میتھڈ کے ذریعہ تدریس۔ براہ راست تدریس کا طریقہ
Teaching, experience centred	تجربہ سربراہ مرکز تدریس
Teaching, family centred	کنیفہ مرکز تدریس
Teaching, incidental	ضمنی تدریس
Teaching, indirect method	با لواسطہ تدریس کا طریقہ
Teaching, intuitive	وجہانی تدریس
Teaching, object	درس اشیا
Teaching, oblique	با لواسطہ تدریس
Teaching, oral	زبانی تدریس
Teaching, positive	اشائقی تدریس
Teaching, practice	مشقی تدریس - مشق تدریس
Teaching, preventive	انسدادی تدریس
Teaching, remedial	اصلاحی تدریس
Teaching, supervised	زیر نگرانی تدریس
Teaching, teacher centric	استاد مرکز تدریس
Teaching, the new	تعلیم جدید
Teaching combination	تدریسی تجویز
Teaching device	پڑھانے کی ترکیب - تدریسی ترکیب
Teaching learning process	عمل تعلیم و تعلم

Teaching load	باز تدریس۔ تدریس کا بوجھ
Teaching machine	تدریسی مشین
Teaching method	طریقہ تدریس
Teaching procedure	عمل تدریس
Teaching programme	تدریسی پروگرام
Team spirit	جذبہ اتحاد عمل
Team teaching	تدریس بے اتحاد عمل
Tear glands	غروہ داشک
Technical School	فنی مدرسہ۔ ٹکنیکل اسکول
Technikums	مکتبی کم دیک صنعتی اسکول)
Technique	ٹکنیک
Technique, average score	اوسط شمارہ ٹکنیک
Technique, discussion	ماہر ٹکنیک
Technique, 'guess who'	بوجھو کون ٹکنیک
Technique, projective	انقلائی ٹکنیک
Technique, pupil portrait	شبیہ طلب ٹکنیک
Technique, Q sort	کیو انٹاب ٹکنیک
Technique, sociometric	سامراجیت یہا ٹکنیک
Technique, teaching	تدریسی ٹکنیک
Technocracy	ٹکنیک شاہی
Technocrat	ٹکنیک دان افسر
Technology	ٹکنیکیات
Technosophy	علم ٹکنیک
Tectorial membrane	کورن تھیلی
Tectum	ستف دسٹری باع
Tedium	کوفت
Telebinocular	روپیشی دوربین

Telegnosis	دودر دانی
Telegraphist's cramp	انگلی اسپنچن
Telencephalon	قبل رماغ
Teleology, unconscious	لا شعوری تائسته
Teleological ethics	نمایی اخلاقیات
Teleology	غایتیات
Teleosis	نامیانی تکیل
Telepathy	دور ا در ا کی
Telephotography	دور بین فوتو گرافی
Telesis	رد پرسی
Telesthesia	دور حسی
Telic	غایتی
Temper	مزاج
Temperament	افتاده مزاج
Temperamental (person)	تنک مزاج - متلون مزاج
Temperance	اعتدال - ضبط - احتساب
Temperature, dry bulb	خشک بلب حرارت
Temperature, wet bulb	تر بلب حرارت
Temperature spot	سقام جوس حرارت
Temper tantrum	چکنا
Temporalism	نظریه زمانیت
Temporality	زمانیت
Temporal maze	زمانی بجهول بھیان
Temporal sign	زمانی علامت
Temptation	ترغیب / رغبت
Tendency	رجحان / میلان
Tendency, acquired	اکتسابی میلان

Tendency, central	مرکزی رجحان
Tendency, eclectic	انتخابیین رجحان
Tendency, homing	خانه‌سازی رجحان
Tendency, instinctive	جلی رجحان
Tendency, migratory	بریگانی رجحان
Tendency, reactive	رد عمل، رجحان
Tender conscience	نازک ضمیر
Tender emotion	نازک بدبات
Tendon	دتر
Tendon organ	وتر غضروف
Tenet	اصول - معتقده
Tense	کشیده
Tension	کشیدگی
Term	تعداد
Term, absolute	مطلق حد
Term, abstract	محبود حد
Term, analogous	ممااثل حد
Term, attributive	صفاقی حد
Term, collective	اجتماعی حد
Term, commensurate	بهم نسبت حد
Term, composite	پیوسته حد
Term, concrete	مشهودن حد
Term, connotative	تعییری حد
Term, exclusive	استثنائی حد
Term, general	عام حد
Term, indeterminate	لاتعینی حد

Term, infinite	حد لامتناہی
Term, major	حد بزری
Term, minor	حد صغری
Term, middle	حد میانی
Term, negative	منفی حد
Term, non-collective	غیر جماعتی حد
Term, non-connotative	غیر تعبیری حد
Term, non-significant	غیر ایم حد
Term, positive	ثبت حد
Term, privative	سلبی حد
Term, relative	اضافی حد
Term, significant	اہم حد
Term, simple	حد سادہ
Term, singular	حد مشخصہ
Terminal student programme	میقاتی طلباء پروگرام میقاتیت رسمیت کی ایک قسم)
Terminism	
Terminology	اصطلاح - اصطلاحات
Terror	دہشت
Tertium quid	شے ثالث
Test, ability	قابلیت آزمائش
Test, academic aptitude	علمی میلان آزمائش
Test, accuracy	درستی آزمائش
Test, achievement	یادوت جانچ یا آزمائش
Test, adaptability	تطابق پذیری آزمائش
Test, advanced personnel	اعلیٰ کارکن آزمائش
Test, aiming	ہدف اندازی جانچ یا آزمائش
Test, alertness	چکری جانچ یا آزمائش

Test, alpha	الفاجانچ یا آزمائش
Test, alphabetical classification	حروت بندی آزمائش
Test, analogies	ماثلیتی آزمائش
Test, analytical	تجزیاتی آزمائش
Test, analytical teaching	تجزیاتی خاندگی آزمائش
Test, antonymn	اضداد آزمائش
Test, appreciation	ذوق فن آزمائش
Test, appreciation aptitude	فنی میلان آزمائش
Test, aptitude	استعداد آزمائش
Test, army intelligence	نوبی ذہانت آزمائش
Test, art	حرث آزمائش / فن آزمائش
Test, articulation	ارائیگی الفاظ آزمائش
Test, association	تلازم آزمائش
Test, associative learning	تلازمی آموزنی آزمائش
Test, attention span	حیطہ توجہ آزمائش
Test, attitude	رویه آزمائش
Test, auditory	سمعی آزمائش
Test, Bebock	بیب کاک آزمائش
Test, basic skills	بنیادی ہمارت آزمائش
Test, battery	مجموعہ آزمائشات
Test, bead threading	سلک گوہر آزمائش
Test, best answer	بہترین جواب آزمائش
Test, bifactor	دو عملی آزمائش
Test, block design	بلاک ڈیزائن آزمائش
Test, block substitutive	بلاک بدل آزمائش
Test, blue print reading	خاکہ فہمی آزمائش
Test, Bohrens Fisher	بوہرنس نشر آزمائش

Test, cancellation	استردادی جانچ یا آزمائش
Test, card sorting	کارڈ پیچت ای جانچ
Test, carelessness	لایرداہی آزمائش
Test, cause effect	علت و معلول آزمائش
Test, change making	صلاحیت تبدیلی آزمائش
Test, character	سیرت آزمائش
Test, choice reaction	انتخابی ردعمل آزمائش
Test, classification	درجه بندی جانچ یا آزمائش
Test, class room	کلاس روم لیٹ
Test; colour blindness	رنگ کوری کی جانچ یا آزمائش
Test, completion	تمکیل جانچ یا آزمائش
Test, comprehension	مطلب فہمی جانچ یا آزمائش
Test, concept formation	تشکیل تصور آزمائش
Test, concept mastery	تدریت تصور آزمائش
Test, conduct	چال چلن آزمائش
Test, context	سیاق و سیاف آزمائش
Test, controlled association	پابند تلازم آزمائش
Test, character	سیرت آزمائش
Test, culture free	تہذیب آزاد آزمائش
Test, dexterity	چاپک دستی آزمائش
Test, diagnostic reading	تشخیصی مرطاع آزمائش
Test, differential aptitude(D.A.T.)	تفرقی استعداد آزمائش
Test, digit span	نہدی حیطہ آزمائش
Test, digit symbol	نہدی علامت آزمائش
Test, direction	سمت جانچ یا آزمائش
Test, disarranged sentence	بے ترتیب جملہ جانچ یا آزمائش
Test dotting	نقاط اندازی آزمائش
Test embedded figures	معنی اشکال آزمائش

Test, emotional stability	جزیات آن سخاکام آزمائش
Test, end	اختتای آزمائش
Test, engine lathe operation	خراد مینی آزمائش
Test, ergographic	ارگوگراف آزمائش
Test, feature profile	فیچر پروفائل جانچ یا آزمائش
Test, following instruction	برایت فہمی آزمائش
Test, formal	پاٹاپلے آزمائش
Test, formed board	نمود اشکال آزمائش
Test, free response	آزاد جواب آزمائش
Test, group	گروپ جانچ یا آزمائش
Test, Hayes pegboard	ہیز پیگ برد آزمائش
Test, Healy picture completion	ہیلی تصویری تکمیل کی جانچ یا آزمائش
Test, Holmgren wool	ہولم گرین اون آزمائش
Test, immediate memory	فوری مانظیر آزمائش
Test, industrial training	صنعتی تربیت آزمائش
Test, informal	غیر رسمی آزمائش
Test, informal objective	غیر رسمی معموقی آزمائش
Test, information	اطلاعات جانچ یا آزمائش
Test, initial	ابتدائی آزمائش
Test, inkblot	انک بلات جانچ - روشنایی در هبہ آزمائش
Test, instructional	بدایتی آزمائش
Test, interest	دلبی پی آزمائش
Test, job sample	نمونه کار آزمائش
Test, judgement	تصدیق آزمائش
Test, knowledge	معلومات جانچ یا آزمائش
Test, knox cube	غیر سان آزمائش
Test, language comprehension	زبان فہمی آزمائش

Test, level of comprehension	فهمی سطح آزمائش
Test, linguistic	سادی آزمائش
Test, literary	خواندنگی آزمائش
Test, logical sequence	منطقی ربط آزمائش
Test, manikin	مینیکن جانچ یا آزمائش
Test, matching	نمایش آزمائش
Test, maze	بجهول محیلیاب آزمائش
Test, mechanical motivation	میکانیکی تحریکی آزمائش
Test, Meier-Seashore art judgement	مائر-سی شوروفنی تجزی آزمائش
Test, memory for design	ڈیزائن حافظه آزمائش
Test, miniature punch press	کوچک سوراخ کار آزمائش
Test, Minnesota rate of manipulation	منے سوٹا شرح دست درزی آزمائش
Test, multifactor	کثیر عوامل آزمائش
Test, multiple response	کثیر جواب آزمائش
Test, muscular resistance	عضلانی مراجحت آزمائش
Test, number checking	عدد سازند آزمائش
Test, number completion	تکمیل اعداد کی جانچ یا آزمائش
Test, number setting	ثبت عدد آزمائش
Test, numerical operation	شمارکاری آزمائش
Test, 'O' connor finger dexterity	وکون انگشت ہمارت آزمائش
Test, omnibus	ہم گیر جانچ یا آزمائش
Test, opposite	تضاد جانچ یا آزمائش
Test, oral reading	آواز خوانی آزمائش
Test, Otis self-administering	اویس نور عملی آزمائش
Test, over-view	سرسری آزمائش
Test, packing blocks	قطعات ترتیب آزمائش
Test, paper pencil	کاغذ پیش آزمائش

Test, part whole	جزءی کل آزمائش
Test, pattern perception	ادراک وضع آزمائش
Test, pendulum	پنجه دوم آزمائش
Test, penmanship	تکمیل کاری آزمائش
Test, performance	کارگزاری آزمائش
Test, persistence	استقلال آزمائش
Test, physical ability	جسمانی قابلیت آزمائش
Test, pictorial	تصویری آزمائش
Test, picture completion	تکمیل تصویری آزمائش
Test, picture interpretation	تعییر تصویری آزمائش
Test, pitch discrimination	تمیز آهنگ آزمائش
Test, placement	تعین مقام آزمائش
Test, power	اہلیت آزمائش
Test, professional	پیشه آزمائش
Test, profile	پروفیل جانع یا آزمائش
Test, projection	تلخیل جانع یا آزمائش
Test, psycho-galvanic reflex	نفسی کهربان اضطراری آزمائش
Test, Purdue mechanical adaptability	پرڈیور میکانیکی تطبیق آزمائش
Test, Purdue mechanical performance	پرڈیور میکانیکی کار آزمائش
Test, Purdue non-language personal	پرڈیونا لغظی شخصی آزمائش
Test, Purdue pegboard	پرڈیور کیل بورڈ آزمائش
Test, puzzle block	سرمه فلطات آزمائش
Test, reading comprehension	عبارت نفسی آزمائش
Test, reading diagnostic	خواندنگ تشخیص آزمائش
Test, reasoning	استدلال جانع

Test, recklessness	ناعقبت اندیش آزمائش
Test, rod and frame	کھونٹی اور فریم آزمائش
Test, Rorschach	روشاخ آزمائش
Test, rotary pursuit	دوری تعاقب آزمائش
Test, sales checking	فروخت، معائنہ آزمائش
Test, scholastic aptitude	علمی استعداد آزمائش
Test, selection	انتخاب آزمائش
Test, self-administering	خود عملی آزمائش
Test, series completion	سلسلہ تکمیل آزمائش
Test, similarities	ماثلت آزمائش
Test, special ability	مخصوص یا ترت آزمائش
Test, speed	سرعت آزمائش
Test, spot pattern	نقطی شکل آزمائش
Test, standardized	معمار بند آزمائش
Test, stanford achievement	اسٹینفورڈ تحصیل آزمائش
Test, stromberg dexterity	اسٹرمبرگ دست و رزی آزمائش
Test, subjective	میرضی آزمائش
Test, survey	سروے آزمائش
Test, switch control	سوچنے کنٹرول آزمائش
Test, syllable span	حیطہ حروف آزمائش
Test, symbol digit	علامت نہد سہ آزمائش
Test, term	میقانی استحقان
Test, Terman group	ترمن گروپ آزمائش
Test, Terman Merrill	ترمن میرل آزمائش
Test, trade	بیشہ درآمد آزمائش
Test, true false	صحیح غلط آزمائش
Test, two option	دواختیار آزمائش

Test, verbal	لغظی آزمائش
Test, verbal reasoning	لغفلی استدلال آزمائش
Test, visual discrimination	بصری امتیاز آزمائش
Test, visual motor gestalt	بصری حرکی گشایش آزمائش
Test, vocabulary	ذخیره و الفاظ آزمائش
Test, vocational aptitude	میلان استعداد پیشه آزمائش
Test, vocational interest	پیشه دلپیش آزمائش
Test, wiggly block	رویگوی قطعه آزمائش
Test, Wonderlic personnel	وندرلک علم آزمائش
Test, word building	لغظه سازی آزمائش
Test, word discriminatioin	لغظه امتیاز آزمائش
Test, word recognition	لغظه شناخت آزمائش
Test, word span	وسيعه انشاذه کي آزمائش
Test, work limit	حد کار آزمائش
Test, X-O	کاٹو گھرو آزمائش
Test, anxiety	تشریش آزمائش
Testimony	شہادت / روایت اہلی
Test before study method	قبل مطالعه آزمائش طریق
Testing procedures, disguised	لغظی طریق آزمائش
Testis(gland)	خصیبہ
Test of basic skill	بنیادی مهارت آزمائش
Test of design judgement	ڈیزائن فیصلہ آزمائش
Test of habitual performance	عادی کار آزمائش
Test of learning aptitude	آموزش استعداد آزمائش
Test of reliability	اعتبار آزمائش
Test of validity	صحت آزمائش
Tests, complex motor	چیزیه حرکی آزمائش

Tests, Flanagan aptitude classification	میلگن صلاحیت صفت بندی آزمائش
Tests, oral achievement	زبانی تعلیمی آزمائش
Tests, simple motor	ساده حرکتی آزمائش
Tests, S.R.A. Primary mental abilities	ایس آر اے۔ ابتدائی ذہنی تابیعت آزمائش
Test score	حاصل کردہ اعداد آزمائش
Test sophistication	آزمائش شناسی
Test standardization	آزمائش عیار بندی
Test study method	آزمائش مطالعہ طریقہ
Test wise	آزمائش دار
Tetartanopi.	رباع کوری
Tetralemma	چو جہت
T-group	نیٹ گروپ
Thalamus	تھالامس
Thanatos (death instinct)	جیت مرگ
The absolute	سلطان
The given	پیش نظر
Theism	الہیت
The new psychology	جدید رفیقات
Theocentrism	الا مرکزیت
Theocracy	حکومت الہیت
Theological approbative theory	دینیاتی نظریہ استحسان
Theological ethics	الہیاتی اخلاقی
Theological naturalism	الہیاتی نظریت
Theological utilitarianism	الہیاتی انواریت
Theological	الہیاتی
Theology	دینیات
Theology, dogmatic	ارعائی الہیات

Theology, empirical	تجربة الہیات
Theologism, liberal	برل الہیت
Theologism, natural	نظری الہیت
Theologism, negative	منفی الہیت
Theologism, practical	عملی الہیت
Theology, theoretical	نظریاتی الہیات
Theology, dialectical	مدلیانی دینیات
Theology, divine	الوہی دینیات
Theology, intellectual	تعقلي دینیات
Theology, moral	اخلاقی دینیات
Theology, mundane	ارضی دینیات
Theology, positive	ثبت دینیات
Theology, speculative	تکریی دینیات
Theomorphic (view)	التشبیہی (نظری)
Theophany	تجعل
Theophilanthropism	سلک الوہی فلاحیت
Theoretical reason	عقل نظری
Theoretikas	نظریت
Theoria	فکری
Theories of predication	نظریات محول
Theory	نظریہ
Theory, adjustment stress	بار مطابقت نظریہ
Theory, all-or-none learning	کل یا صفر آموزش نظریہ
Theory, continuity	نظریہ تسلسل
Theory, instinct	نظریہ جیبت
Theory, permeation	نفوذ نظریہ
Theory course	نظری نصاب

Theory of accidental variation	عرضی احتفات کا نظریہ
Theory of corelation of energy	ربط قوت نظریہ
Theosophy	تھیو سوفی
Therapeutics	معالجیات
Therapy	طرائقی علاج
Therapy, carbondioxide	کاربن ڈائی آگسٹنڈ علاج
Therapy, music	موسیقی علاج
Therapy, radioiodine	ریڈیو آئرڈینے علاج
Therblig	ٹھربلگ (روت حركت اکانی)
Therblig skill average	ٹھربلگ مہارت اوسط
Thermo aesthesiometer	ٹھرمو ایستھسیومیر (مسی حرارت پیا)
Thermo receptor	حرارت اخذ
Thesis	مقال
Thing-in-itself	شے بالذات
Thinking	غور فکر ر تفکیر
Thinking, abstract	بحد فکر
Thinking, analogical	تشیل فکر
Thinking, autistic	تحمیل فکر ر استانہ فکر
Thinking, conceptual	تفقی فکر
Thinking, constructive	تعییری فکر
Thinking, convergent	پکیت فکر
Thinking, creative	غلقیق فکر
Thinking, critical	تفقیدی فکر
Thinking, deductive	استخراجی فکر
Thinking, directed	مقصد مرکوز فکر
Thinking, divert	کثیر جبٹ فکر
Thinking, effective	موثر فکر

Thinking, imaginative	تخیلی نظر
Thinking, inductive	استقرانی نظر
Thinking, logical	منطقی نظر
Thinking, perceptual	اوراکی نظر
Thinking, productive	بارآور نظر
Thinking, purposive	مقصدی نظر
Thinking, rational	استدلالی نظر
Thinking, reflectional	اعلاکی نظر
Thinking, selective	انتخابی نظر
Thinking, symbolic	علامتی نظر
Thinking, synthetic	ترکیبی نظر
Thinking disorder	غسل نظر
Thoracico lumber system	صدری شکنی عصبی نظام
Thought	نظر
Thought, free	آزاد نظر
Thought thinking	خود تفکر نظر
Thought transference	انتقال نظر
Three-dimensional movement	سر الباری حرکت
Three factor theory	سه عاملی نظریه
Threshold (=Lenien)	اقل
Threshold, absolute	سلطن دلیز
Threshold, brightness	تابانی دلیز
Threshold, stimulus	بهج دلیز
Threshold, terminal	آخری حد
Thurstone neurotic inventory	تھرستن مغل اعصاب سوال فرم
Thurstone temperament schedule	تھرستن مزاج شیڈول
Thymus (gland)	تمامش دندرون

Thyroidectomy	قطعه درقی غدره
Thyrotrophia	ورقی غدره تعطیل
Thyroxin	تھارڈکن - درتیاب
Tic	اختیاری
Time, subjective	موضوعی زمان
Time and motion economy	زمان و حرکت کفایت
Time error	سہو زمانی
Timeless	بے زمان
Time sampling	ٹائم سانپل
Time schedule	ٹائم شیڈول / نظام الارقات کا مقررہ وقت
Time sense	شعور زمان / حاسیہ زیان
Time apparatus	آلہ وقت
Timidity	بوداپن / جھجک
Timology	علم الاقنار
Tinge	آمیزش پیدا کرنا
Tint	پلکارنگ
Tonal belt	صوتی سڑی
Tonal gap	صوتی رثغہ
Tonal island	صوتی جزیرہ
Tonal standard	صوتی معیار
Tone	سر / لہجہ
Tone, Fundamental	اساسی سر
Tone, generating	تقلیقی سر
Tone, lowest audible	اول سموع سر
Tone, pure	خلص سر
Tone deafness	سر پر بہرا پن
Tone sensation	سر غصیص

Tonic	سری
Tonic contraction	عضلاتی سکڑن
Tonic immobility	عضوی تعطیل
Tonograph	ٹونوگراف
Tonometer	سپریمیا۔ ٹونومیٹر
Tonomoscope	مسن نما
Tonus	عضلاتی لرع
Topectomy	قططع دماغ۔ لختہ
Topic	موضوع
Topical unit	موضوع اکائی
Topographical arrangement	ٹوپو گرافیاں ترتیب
Topography	نقشہ سازی۔ جغرافیا حضوریات سے تعلق
Topological psychology	ٹوپو چیجانی نفیات
Topology	ٹوپو چیجی
Totalitarian absolutism	کلیتی مطلقیت
Totalitarianism	مطلق العنايت
Totality	کلیت
Totem	ٹوٹم
Totemism	ٹوٹم پرستی
Touch	مس
Touch spot	نقطہ مس
Toxemia	خون سمی
Toxic	سمی
Toxic deliria	سمی سرسام
Toxic psychosis	سمی جنون
Toxophobia	خوف سم
Trace	سارغ

Trachea	سانس کی نالی
Trachoma	روہے
Tracking	سراغ زری
Tradition	روایت
Traditionalism	روایت پرستی
Traditional logic	روایتی منطق
Traditional morality	روایتی اخلاق
Traducianism	مسئلہ توالداروں کا
Trainability	تریبیت پذیری
Trainer	تریبیت کار
Training	ٹریننگ - تربیت
Training, apprentice	کار آموزی تربیت
Training, on the job	دوران کار تربیت
Training, orientation	تعارفی تربیت
Training, technical	ٹکنیکی تربیت
Training, vestibule	نو عملہ تربیت
Training aids	سامان تربیت
Training college	ٹریننگ کالج - استادوں کا مدرسہ
Trait	خاصہ رامتیازی (وصفت)
Trait, source	مبتدأ خاصہ
Trait, surface	سطحی خاصہ
Trait, consistency	خاصہ قوانین
Trait, generality	خاصہ خصائص
Trait, patterning	خاصہ اور صفات
Trait, pervasiveness	خاصہ ساریت
Trait, stability	خاصہ استقامت
Trait theory	نظریہ خاصہ

Trait theory, idiographic	الفزاری و صفت نظریہ
Trait theory, nomothetic	عام و صفت نظریہ
Trance	مدھر شی
Tranquilizer	سکن
Transcendent	ماوراء
Transcendental	ماوراء اُن
Transcendental aesthetic	ماوراء اُجہالیات
Transcendental analytic	ماوراء تحلیلیات
Transcendental apperception	ماوراء استدراک
Transcendental ego	ادراک انا۔ ادراک خودی ما درا
Transcendentalism	ماورائیت
Transcendentals (Pl)	ماورائیے
Transduction	ارثی انتقال
Transfer, negative	انتقال سکبی
Transfer, zero	صفراً انتقال
Transfer of learning	انتقال تعلم
Transfer report	تیارلم رپورٹ
Transference	انتقال یقین
Transference, bilateral	دو پہلے انتقال
Transference, positive	انتقال اثبتی
Transformation	قلب ماهیت
Transgression	خلاف ورزی جرم
Transitional cortex	عبوری تشریڈ ماغ
Transitive	متعددی
Transitive relation	متعددی اضافت
Transitivity	متعددیت
Transitory value	عابر منی قدر

Transmigration	تنازع
Transmission	ترسیل
Transmission unit	ترسیلی اکائی
Transposability, law of	اصول تبدیل مقام
Transposition	تبدیل ترتیب
Transposition of premises	مقدموں کی تبدیل ترتیب
Transverse	عرضی
Transvestism	مخالفت جنس اطوار
Trauma	صدمة
Traumatic delirium	صدماقی ہڑیان
Traumatic neurosis	صدماقی عقل اعصاب
Traumatic psychosis	صدماقی جنون
Tremor	لرزہ
Trend	رجحان
Trephine	ٹرینین رآلہ
Triadic relation	تلیشی نسبت
Trial and error learning	سمی و خطا آموزش
Trial-error, various	مفوضہ سمی و خطا
Trial promotion	آزمانتش ترقی
Tribal ethics	قبائلی اخلاقیات
Trichotillomania	پال فروج ضبط
Trichotomy	تلشی تقسیم
Trichromatism	سرنگ بھری
Trigeminal nerve	عصب سوم کاسہ سر
Trilemma	سر جہتا
Trinitarianism	تلیشیت
Trinity	تلشیت

Prisomism	سے اجسام لونیہ
Tritanopia	جزوی رنگ کری
Trochlear nerve	عصب چہارم کا سہ سر
Truancy Record	مدرسہ گریزی ریکارڈ
Truant Child	بھیگوڑا بچہ
True-false test	صدق کذب آزمائش
Truth	صراحت
Truth, formal	رسمی صراحت
Truth, material	ماری صراحت
Truth, primary	ابتدائی صراحت
Truth, ultimate	قطعی صراحت
Truthfulness	صراحت
Truth function	صراحت تفاعل
Truth table	صراحت جدول
Try out	آزمائش
Tryout course	زیر تحریہ نصاب
T.scale	ٹی اسکیل
Tuition fee	فیس تعلیم
Tumour	رسوی
Tunnel vision	سرنگ نظر
Turnover, labour	مزدور تبدیلی
Turnover, rate	شرح مزدور تبدیلی
Tutiorism	تضمیم آزادی دینقابلہ قانون)
Tutor	اتائیق
Tutorial class	شونریں کلاس
Twilight vision	مدھم بصارت
Twins	جنوں ان توام

Twins, fraternal	جڑوائی جہانی - توام بھائی
Twins, identical	میاں جڑوائی
Twins, one egg	یک سینی جڑوائی
Twins, two egg	دو سینی جڑوائی
Two aspect theory	دو میلو نظریہ
Two factor theory	دو عاملی نظریہ
Two factor theory of intelligence	دو عاملی نظریہ ذہانت
Tychism	نظریہ التفاقات
Type	طبعی وضع - ٹائپ
Type theory	طبعی وضع نظریہ - ٹائپ نظریہ
Types, hierarchy of	نظریہ اور ضایع طبعی
Types of learning	اسام آموزش
Typical child	مثالی بچہ - عجیب بچہ
Typing	وضعیت
Typing associational	ایسٹلانی وضعیت
Typing, hereditary	ارلی وضعیت
Typing, racial	نسلی وضعیت
Typing, religious	مذہبی وضعیت
Typing, social class	سمائی طبقہ وضعیت
Typology	علم وضعیت
Typology of morals	وضعیت اخلاق

U

Ultimate	آخری - نہایتی
Ultimate law	قانون تطعی
Ultra intellectualism	فوق عقلیت
Ultra Violet	بالائے بنفسی (رشعاع)
Umpire	امپائر
Uncaused event	غیر معلوم و قواعد
Uncertainty principle	اصول لا یقینی
Unconditioned	غیر مشروط
Unconditioned, the	ذات غیر مشروط
Unconscious, collective	اجتماعی لاشعور
Unconscious, racial	نسلی لاشعور
Unconscious cerebration theory	لا شعوری ریاضی عمل نظریہ
Unconscious motivation	لا شعوری تحریک
Unconscious will	لا شعوری ارادہ
Understanding	فهم
Undifferentiated	غیر متفرق
Undifferentiated type, acute	شدید غیر متفرق ٹاپ
Undistributed	غیر منقسم
Undoing mechanism	کالعدم میکانیزم

Unequal liabilities	غیر مساوی بار
Unicity of the intellect (theory)	وحدت عقل (نظریہ)
Unicity of will (theory)	وحدت ارادہ (نظریہ)
Unidimensional scale	یک بعدی پیمانہ
Uniform	یکسان
Uniformity	یکساخت
Unilateral	یک رخی - یک طرفہ
Unimodel	یک طرز - یک طریقہ
Union busting	یونین نقاق اندازی
Union democracy	یونین جمہوریت
Union raiding	یونین پر چھاپ
Unionist	یونین پسند
Unipolar	یکقطبی
Unipolar cell	یک تطبیقی طبیہ
Unitary type	وحدانی وضع
Unit character	سیرت اکان
Unit of thought	خيال اکان
Unit plan	اکان منصوبہ
Unity in multiplicity	وحدت در کثرت
Universal	کلی - کلیہ
Universal, abstract	محض کلیہ
Universal, concrete	مقرون کلیہ
Universal, enumerative	شماری کلیہ
Universal, complex	عالمی گرہ
Universalism	نظریہ فلاح کل (علمیات) نظریہ بجات کل (دینیات)
Universe of discourse	دائرہ بحث
University	یونیورسٹی

University, affiliating	الجامعة یونیورسٹی
University, federative type	وفاقی وضع یونیورسٹی
University, residential	آقامی یونیورسٹی
University, rural	دیہی یونیورسٹی
University, teaching	تمدرسی یونیورسٹی
University, teaching and affiliating	تمدرسی والجامعة یونیورسٹی
University, unitary	وحدائی یونیورسٹی
Unknowable	ما درست علم
Unlearned	جاہل - غیر اکتسابی
Unmoved mover	غیر متحرک محرك
Unreality feeling	احساس بے حقیقت
Unrighteousness	ناراست بازی نسق
Unverifiables (PL)	نا قابل توثیق
Urge	سلگ - شوق - قری محک
Urethral eroticism	بولی شہوتوت
Urogenital	برنی تناسلی
Urticaria	پیچا چھلنا
Use-inheritance	توريث استعمال (لامارک)
Usher	معاون مدرس
Utilitarian	افادی
Utilitarianism	افادیت
Utility	افادہ
Utility thinking	افادی فکر
Utopia	یوپیا
Uvula	علق کا گوا - یورولا

V

Vacation	انخلاء
Vacuum	خلاء
Vacillation	تندیب-پس و پیش
Valence	ترتکشش
Valence, negative	جهتی قوت رانم
Valence, positive	جهتی قوت جاذبه
Validity	صحت
Validity, concurrent	هم دروغ صحت
Validity, construct	تصویراتی صحت
Validity, content	مواردي صحت
Validity, empirical	تجربی صحت
Validity, face	ظاهری صحت
Validity, factorial	عاملی صحت
Validity, operational	عملی صحت
Validity, predictive	پیش قیاسی صحت
Validity, shrinkage of	تفصیل صحت
Validity, co-efficient	شرح صحت
Valid mood	صحیح کیفیت
Valuation	تدریجیابی-قدرشناسی

Value	قدر
Value, absolute	قدر مطلق
Value, aesthetic	جمالیاتی قدر
Value, antimonies of	اضداد قدر
Value, association	ایستلانی قدر
Value, bodily	جسمانی قدر
Value, conservation of	حفظ قدر
Value, contributive	مدد قدر
Value, economic	اقتصادی قدر- معاشیاتی قدر
Value, expected	منتظرت قدر
Value, extrinsic	خارجی قدر
Value, fundamental	اساسی قدر
Value, hyper-organic	پیش نایی قدر
Value, impersonal	غیر شخصی قدر
Value, inherent	علقی قدر
Value, instrumental	وسیلی قدر
Value, intellectual	علمی قدر- خردی قدر
Value, intrinsic	داخلی قدر
Value, logical	منطقی قدر
Value, moral	اخلاقی قدر
Value, negative	منفی قدر
Value, non-productive	غیر باز آور قدر
Value, numerical	سندسی قدر
Value, organic	نامیاتی قدر
Value, permanent	قدر مستقل

Value, personal	شخصی قدر
Value, positive	مثبت قدر
Value, probative	اغلب قدر
Value, productive	بار آور قدر
Value, recreative	تفریحی قدر
Value, relative	اضافی قدر
Value, religious	مند ہی قدر
Value, social	سماجی قدر
Value, spiritual	روحانی قدر
Value, super personal	نوقی ذات قدر
Value, transitory	غارصی قدر
Value in exchange	بدل قدر
Value in use	قدر مستعمل
Value words	قدرتی الفاظ
Values, attitudinal	رودیہ اقدار
Values, commensurability of	ہم تناسب اقدار
Values, creative	تجھیقی اقدار
Values, experiential	تجربی اقدار
Values, hierarchy of	مراتب اقدار
Values, scale of	پیمائش قدر
Values, system of	نظام قدر
Values, transvaluation of	تبديلی اقدار
Variability	غیر کیسا نیت
Variable stimulus	متغیر نیج
Variance	عدم توانی
Variation	انحراف - تغیر - فرق
Variation, direct	راست انحراف - راست فرق

Variation, inverse	مکوس فرق
Variation, parallel	متوازی فرق
Variation, simultaneous	هم وقت فرق
Variation, successive	ستوای فرق
Vascular disorder	عروقی اختلال
Vascular theory	عروقی نظریہ
Vasoconstriction	عروقی انقباض
Vasodilation	عروقی توسعہ
Vasopression	ولیسو پریشن
Vector	ویکٹر - خط مژرات
Vector, contact	اتصالی خط مژرات
Negative existence	نیاتی وجود
Vegetotherapy	نباتی علاج
Velleity	خیف ارادہ / کمزد رخاہش
Vengeance	انتقام - بدله
Ventricle	جوٹ (تشريع)
Ventral column	پیش استوانہ
Ventral horn	پیش دور شاخہ
Ventral horn cell	پیش دور شاخہ غلیہ
Ventral root	پیش جڑ
Ventriculography	درماخ جوٹ نگاری
Veracity	صراحت صدامت گون
Verbal consistency	لفظی توافق
Verbal definition (see under definition)	الفاظی تکمیل
Verbal formulation	لفظی استدلال
Verbal reasoning	لفظی میزان - الگاظ جمع کار
Verbal summator	الفاظی میزان - الگاظ جمع کار

Verbalism	لغتیت
Verdict	نیمکت- فتوحی
Verifiability, practical	عملی تصدیق پذیری
Verifiability in principle	اصولی تصدیق پذیری /
Verifiable	قابل تصدیق
Verification	تصدیق
Verification, direct	براه راست تصدیق
Verification, indirect	پاراسط تصدیق
Verity, eternal	دائمی صداقت
Vertigo	دوران سر
Very superior	نهایت اعلیٰ - نهایت برتر
Vesecle	غضن کیسہ - عرق دانی
Vestibular	رہدار
Vestibule	رہداری
Viability	عمل قابلیت - زیست قابلیت
Viability, age of	زیست قابلیت دور
Viable	خودکفایی
Viberto	آسیشگی ارتعاش
Vibration	ارتعاش
Vicarious	نیاتی - مفترضہ
Vicarious living	لطفیلی زیست
Vicarious satisfaction	نیاتی تسکین
Vice	واسخ - نقص - عیب - براچ
Vice-chancellor	واسخ چانسلر
Vicious circle	دور فاسد
View, synoptic	مختص نظر
Vindictive neurosis	انتقامی خل اعصاب

Violation	خلاف درزی
Virilism	زن مردویت
Virtual image	راتقی عکس
Virtue	فضیلت
Virtue, intellectual	علمی فضیلت
Virutes of generous quality	فیاضانه فضائل
Virtues of requisite quality	بنیادی فضائل
Virtues of righteous quality	عدلی فضائل
Viscera	احشا
Viscosity	چپ چپاہٹ
Visibility, coefficient	شرح بمارت
Vision	بصیرت - نظر
Vision, focal	عکس نظر
Vision, foveal	نظر / مرکزہ
Vision, inverted	متقلب عکس نظر
Vision, peripheral	حاشیائی نظر
Visiting committees	جاڑہ گیشی
Visual angle	زاویہ نظر
Visual area	حلقہ نظر - دائرة نظر
Visual displays	بصری مشہرات
Visual field	ساحت نظر
Visual inspection	بصری معاشرہ
Visual line	خط بصارت
Visual process	عمل بمارت
Visual space	وقت نظر
Visual span	دست نظر
Vital impetus	حیاتی محکم

Vitalism	حياتیت
Vitreous (n)	شیشه نا
Vocabulary	ذخیره الفاظ
Vocabulary, active	فعال ذخیره الفاظ
Vocabulary, comprehensive	جامع ذخیره الفاظ
Vocabulary, passive	منفعل ذخیره الفاظ
Vocabulary scatter	الفاظی انتشار
Vocal cord	صوتی جبلی
Vocal cord, fundamental	بنیاری صوتی جبلی
Vocalization	صوتیانا
Vocal organs	اعضائے تنفس
Vocational	پیشہ درانہ
Vocational guidance	پیشہ درانہ رہنمائی
Vocational interest blank	پیشہ دلچسپی خاکہ
Vocational selection	انتخاب پیشہ
Voice key	آواز میلن
Void	خلال
Volition	تورت ارادی
Voluntarism	ارادیت
Voluntary action	ارادی عمل۔ ارادی فعل
Voluntary activity	ارادی فعالیت
Voluntary control	ارادی ضبط
Voluntary effort	ارادی سعی
Volvox (volvex)	والواکس
Vorstellung	شناسان
Vorte atom theory	جوہر گردش نظریہ
Voyeurism	جنسیانی نظارگی

W

Wage Wakonda	داکونڈا پر اسرار قوت
Wage loss	اجرت نقصان
Wage worker	اجری مزدور
Wallerian degeneration	ولیئرین اخلاط
Warden	وارڈن
War neurosis	جنگ خلی اعصاب
Warnicke area	وارنک ایریا
Wax flexibility	سمی چک
Weaning	دورہ چھڑائی
Weariness	افسردگی
Weber, Fechner law	دیبر فنر قانون
Weber's Law	دیبر کا قانون
Wedensky's effect	ویدنسکی اثر
Wedge (or vee)	پنکھ
Weightage	وتعت - وزن
Weighted checklist	وزن یا فنہ پر تالی فہرست
Weighted mean	وزن یا فنہ اوسط
Weighting	تعین وزن
Wellbeing	فلاح و سہبز

Weltanschauung	تصویر حیات و کائنات
"What"	"کیا"
Wheatstone bridge	برقی مراجمت پیما
White collar Workers	سفید پوش ملازمین
White matter	جوہر سفید
White ranius	سفید رنیوس
Whole	کل
Whole, organic	عضویاتی کل
Whole, systematic	منظم کل
"Whole child" concept	مکمل طفل تصور
Wiggly block	وگلی بلاک
Wild justice	جنگلی / رحمتی انصاف
Will	اراده - عزم
Will, cosmic	کائناتی مشیت
Will, general	عمومی اراده
Will, rational	معقول اراده
Willing composition scale	دونگ انسان پیمانه
Will therapy	خود اراده علاج
Will to believe	اراده لیقین
Will to live	عزم حیات
Will to power	عزم للقوت
Wisdom	عقل و حکمت
Wisdom, practical	عمل حکمت
Wisdom, theoretical	نظری حکمت
Wish	خواهش آرزو - تمدن
Wishfulfilment	تکمیل خواهش

Wit	بذری سمجھی - نکتہ سمجھی
Wit and humour	بذری سمجھی و ظرافت
Witch craft	نین سحر
Withdrawal	کنارہ کشی - غزلت
Withdrawal symptom	کنارہ کشی علامت
Word card perception	لفظ کارڈ ادراک
Word deafness	لفظ کمری
Word fluency	روانی افاظ
Word hash	لفقق کھوپڑی
Word matching	لفظ ملانا
Word reaction time	الفاظ در عمل وقتہ
Work book	مشقی کتاب
Work cycle	دور کار
Work of supererogation	زائد منصب خدمت
Work out-put	کارہا حصل
Work shift	کام کی باری
Work space	جائے کار
Worker's rank and file	عام کارکن
Worker specification	تفصیل کارکنان
Works council	کارکرکنس
World, external	خارجی عالم
World, phenominal	منظور ہری عالم
World, private	خی خالم
World consciousness	شعور عالم
World ground	اساس عالم
Worldliness	دنیا پرستی
World soul	نفس عالم

World stuff	مورا عالم
World view	تصور عالم
Worry	پریشانی
Worship	عبارت
Writing	انشا۔ لکھاڑت۔ تصنیف۔ صفحون
Writing, ataxic	بے ربط لکھاڑت
Writing, automatic	خود کار لکھاڑت۔ خود کار تحریر
Writing, backhand	دایمن طرف جگلی ہرنی لکھاڑت
Writing, creative	تخمیقی تحریر
Writing, cursive	خط شکستہ
Writing, lefthand (sinistral)	بین سچی لکھاڑت
Writing, posture	نشست تحریر
Writing, righthand (dextral)	دین سچی لکھاڑت
Writing, semiupright	نیم عمودی خط
Writing, upright	عمودی خط
Writing, tremor	ہر دار خط
Writing rate	رنستار تحریر
Wrong	غلط

X

Xenophobia

خوف اجنبی

Y

Year book	سالانہ کتاب
Yellow-sighted	زرد بصری
Yellow spot	زرد نقطہ (رنظر)
Youth programme	نوجوانوں کا پروگرام

Z

Zeigarnice effect	زالگارنیک- نتیجه
Zero	صفر
Zoomorphism	حیوان تشبیهیت
Zoophobia	استلذاز با روحش - جانور لذتیت
Zootheism	جانور پرستی
Zygote	زاگوت
Zygotic	زاگوتیک

